

پہنچ تاریخ

ترجمہ
محمد حسن جعفری

تألیف
موسیٰ خسروی



حسن علی بکری پیشوای مقابل امام بلاۃ کھاڑی کراچی فون ۵۰۳۲۴۲



www.ziaraat.com

SABEEL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com



۷۸۶
۹۲۰۰

پا صاحب الزہاب اور کتب

DVD
Version

لپیک یا خسین

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو)

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

NOT FOR COMMERCIAL USE

વક્ફ

આ કિતાબ હાજી મહમેદઅલી ભાઈ
અલીભાઈ સુંદરજી "સોમાસોક"
તનનરીવ માડાગાસ્કારવાળા તરફથી
તેમના મરહુમ સગાવહાલાઓની
રહોના સચ્ચવાખ અર્થે
વક્ફ કરવામાં આવેલ છે.
ધાર્મ લેનાર ભાઈ બહેનો મરહુમોની
અરવાહેના સવાખ અર્થે એક
સુરાએ ફાતેહા પઢો બક્ષી આપે
એવી નમ્ર અરજ છે.





پند تاریخ

اخلاقی 〇 تاریخی 〇 اجتماعی

تألیف : موسیٰ خروی

ترجمہ : محمد حسن جعفری

حسن علی بک ڈپو

بالمقابل بہ امام باڑہ کھارا در کراچی۔ ۷۲۰۰۰

عنوانین کتاب

باب اول - امر بالمعروف و نهى عن المحر

۹	قرآنی داستان
۱۳	برائی سے کیوں نہ روکا؟
۱۷	ننى عن المحر کے لئے الام صادق کا طریقہ
۱۸	زی و شانگلی سے امر بالمعروف کرنا چاہئے
۲۳	خدا کیا چاہتا ہے؟
۲۴	علمموں اور دانشوروں پر عذاب الہی
۲۸	علاء کا فریضہ کیا ہے؟
۳۰	تبغ کے لئے معروف اور مکر کا علم ہونا چاہئے
۳۱	حکام کا صحیح ہونا ضروری ہے
۳۵	نقم
۳۷	چند روایات

باب دوم - فضائل علم و عالم با عمل

۳۶	معارف دینی کی تعلیم کا اجر کیا ہے؟
۳۹	ایک دینی مسئلے کی تعلیم کی قدر و قیمت
۴۱	تیس ہزار درہم یا علم کا ایک دروازہ
۴۲	اولو العزم نبی خدمت استاد میں
۴۱	طلاء محنت کے ساتھ توسل بھی کریں
۴۲	دینی طلاء کو باکردار ہونا چاہئے

جملہ حقوق طبع حق ناشر محفوظ ہیں

کتاب _____ پند تاریخ جلد پنجم
 تالیف _____ موسیٰ خروی
 ترجمہ _____ محمد حسن جعفری
 تصحیح _____ سید فیضیاب علی رضوی
 طبع اول _____ ۱۴۰۰ھ

۱۲۲	دوسٹوں کی اراوت اور ائمہ کی توجہ
۱۲۳	آل محمد دوستوں کی موت پر کیا کرتے ہیں؟
۱۲۶	ولاد کو یوں تربیت دیں
۱۲۸	شیعہ اور ہیں اور محبت اور ہیں
۱۳۱	تاہید مزید
۱۳۲	نعت حقیقی کیا ہے؟
۱۳۳	چند روایات

باب چہارم - دین میں استقامت

۱۳۴	استقامت بالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۱۳۷	استقامت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۱۵۱	ایک معلم قرآن سے کیا سلوک کیا گیا؟
۱۵۲	شعب الی طالب، استقامت کی عظیم مثال
۱۵۸	جنگ احمد میں استقامت دکھانے والے
۱۶۲	ایو و جانہ، استقامت کا کوہ گراں
۱۶۳	ایک مسلم خاتون کی جال ثاری
۱۶۶	ایک مسلم خانوادہ کی استقامت
۱۷۰	مسلمان کو بیش مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہئے
۱۷۱	جب انسان استقامت کھو دے
۱۷۳	چند روایات
۱۷۴	عقیدہ امامت کے لئے استقامت کی ضرورت ہے

باب پنجم - چغل خوری اور غیبت

۱۷۸	چغل خور کا انجام
۱۸۳	چغل خور کی قیامت خیزی

۶۵	اس عالم کے نقصان کو بھی ملاحظہ کریں
۶۷	اچھا بادشاہ کون اور بہتر عالم کون؟
۶۸	دوخون کی جاگیر
۶۹	دو عالم کامل
۷۰	ایک نالائق مند علم پر
۷۳	ایک اور نمونہ
۷۵	عالم حقیقی کا مقام
۷۷	چند روایات

باب سوم - محبت الہیت و نفرت از اعداء الہیت

۸۶	ایک حقیقی نحب آل محمد علیم السلام
۸۹	سید حمیری نے حالت احقرار میں کیا دیکھا؟
۹۳	پیغمبر کے دیلے کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہنا
۹۶	آل محمد اپنے محبوب سے کیا سلوک کرتے ہیں؟
۹۹	توسل کا نتیجہ
۱۰۰	دعائے علی کی اہمیت
۱۰۲	المرء مع من احب
۱۰۵	اعتقاد ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے
۱۰۷	نجات کا حقیقی راستہ
۱۰۹	"لیام سے دشمنی نہ رکھو" کا مفہوم
۱۱۲	شیعیان علی کے لئے خوش نصیب ہیں؟
۱۱۳	دشمنوں سے حسن سلوک
۱۱۷	جس نے علی کی تقاضی کی
۱۱۹	جس کا تو مولا ہواں کو ناز کرنا چاہئے

باب اول

بسم الله الرحمن الرحيم

امر بالمعروف ونهي عن المنكر

کنتم خیر امة اخراجت للناس تأمرتون بالمعروف
وتهونون عن المنكر (سورة آل عمران آیت ۱۱۰)
”تم بہترین امت ہو، جنہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا،
تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔“

قرآنی داستان

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا
قردة خاسدين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعده
للمتقين. (سورة البقرة آیت ۲۵-۲۶)

تمہیں ان لوگوں کے متعلق خوبی معلوم ہے جنہوں نے سپر کے دن
تجاورز کیا تھا، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بدر بن جاؤ، ہم نے ان کو حاضرین

۲۷۲	ماں اشیز کب روزہ رکھتے تھے؟
۲۷۳	عبادت کے لئے وقت کو غیمت جانیں
۲۷۷	تارک حج و زکوٰۃ یہودی کہ نصرانی؟
۲۷۸	چند روایات

باب نہم - زہد و پارسائی

۲۸۵	مولائے مقیمان کا زہد
۲۸۷	ایک اور داستان
۲۸۸	شیخ مرتضی انصاری کا انداز زندگی
۲۹۱	زید کی بھی حدود ہیں
۲۹۲	لائق توجہ
۲۹۳	رہبانیت و تصوف
۳۰۰	خرافات صوفیہ
۳۰۱	رابعہ بھری کی کرامت
۳۰۵	دو صوفیوں کا مقابلہ
۳۰۷	سفید جھوٹ
۳۰۹	سفیان ثوری کے اساندہ کا انجام
۳۱۰	جھوٹ میں بُڑی ہوتی تو گلے میں ضرور اکتنی
۳۱۲	سفیان ثوری کی شخصیت
۳۱۳	بارک اللہ، ایسی کھاتی؟
۳۱۶	چہ صوفی کی دعا کے انتظار میں رحم مادر میں نکارہا
۳۱۷	ایک سے بڑھ کر ایک
۳۱۹	نماز متصوف
۳۲۰	حقیقت تصوف
۳۲۲	صوفیہ کی اسلام و شمن تعلیمات
	چند روایات

مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ
وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو اپنے حوضوں میں بند کر لیتے تھے اور خدا کے سامنے
صلیے ہنانا چاہتے تھے۔ اس طرح سے ان کو ایک بڑی مقدار میں مچھلیاں مل جاتی
تھیں۔ مچھلیوں کی فروخت سے انہوں نے بے انتہا دولت کمائی اور دولت کو
شراب و شباب میں لٹانے لگے۔

اس شر میں اتنی ہزار افراد سکونت پذیر تھے ان میں سے ستر ہزار افراد
اس طریقے پر خوش تھے اور دس ہزار افراد کو یہ طریقہ پسند نہ تھا اور وہ انہیں
ایسا کرنے سے منع کرتے تھے۔

قرآن مجید کی ان آیات میں رب العزت نے ان کی داستان بیان
کرتے ہوئے فرمایا: ”وَاسْتَلِهُمْ عَنِ الْقُرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْحَرَادِ
يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ...الخ. ان سے اس آبادی کے متعلق دریافت کریں جو
سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے۔“

ایک گروہ نبی عن المعر کا خدائی فریضہ انجام دیتا تھا اور انہیں اس سے
روکتا تھا، اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو عمل میں ان کے ساتھ شریک
نہیں تھا لیکن وہ انہیں روکتا بھی نہ تھا اور اس ”غیر جانبدار“ گروہ کی عجیب بات
یہ تھی کہ وہ نبی عن المعر کرنے والے گروہ کو بھی روکتے تھے۔ قرآن مجید نے
اس گروہ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں: ”لَمْ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهَ مَهْلِكَهُمْ أَوْ
مَعْذِبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔“ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک
کرنا چاہتا ہے یا انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے۔“

اور آنے والوں کے لئے باعث عبرت اور پرہیز گاروں کیلئے باعث نصیحت ہنادیا۔
اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ
اصحاب سبت ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے اور ان کا پیشہ ماہی
گیری تھا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا اور
انیاء کرام علیم السلام نے انہیں بتایا کہ یہ دن تمہارے لئے عبادت اور
مچھلیوں کے لئے امان خداوندی کا دن ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا، ہفتے کے دن مچھلیاں سطح پر
آجائی تھیں اور باقی لیام میں بڑی مشکل سے قابو میں آتی تھیں۔

اس قوم نے عقل عیار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک عجیب طریقہ
اختیار کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یوم سبت کی حرمت بھی حال رہ
سکتی ہے اور ان کا شکار بھی باتھے آسکتا ہے۔

چنانچہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے دروازوں تک
لے آئے اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنالے۔ جب ہفتے کا دن
ہوتا تو وہ اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے۔ مچھلیاں امان خداوندی پر اعتماد کر
کے ان کی نہروں میں آجائیں اور حوض میں چلی جاتی تھیں۔ عصر کے وقت
جب مچھلیاں واپسی کا راہ کر تیں تو وہ نہروں کا دہانہ بند کر دیتے تھے۔ یوں ہر
ایک شخص کے حوض میں بڑی مقدار میں مچھلیاں بچپن جاتیں اور وہ اتوار کے
دن مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کر دیتے تھے، جب انہیں ملامت کی گئی کہ
ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے تو وہ بڑی بے حیائی سے جواب دیتے کہ ہم یہ

لوگ دروازوں پر بیٹھے ہوئے بندروں سے کہتے: "کیا تم فلاں عن فلاں
ہو؟" تو ان کے آنسو بخنے لگتے۔

تین دن تک بدکار قوم بندروں کی صورت میں زندہ رہی، تین دن
کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت بارش بر سائی اور ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے
انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور یوں یہ بدکار قوم اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: "کوئی بھی مسخر شدہ قوم تین
دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور اس وقت جو بندر نظر آتے ہیں یہ پہلے دن سے
ہی بندر تھے اور مسخر شدہ قوم کی نسل آج تک نہیں بڑھی۔" (۱)

تفسیر برہان میں محمد بن یعقوب کی زبانی یہ تذکرہ کیا گیا:
"عن ابی عبد اللہ (علیہ السلام) فی قوله تعالیٰ:

فَلَمَّا نَسَا وَمَذْكُورًا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ . قَالَ كَانُوا
ثَلَاثَةً أَصْنَافًا . صَنْفٌ اتَّمَرُوا وَأَمْرُوا وَنَجُوا وَصَنْفٌ اتَّمَرُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا
فَمَسْخُوا وَصَنْفٌ لَمْ يَأْتِمُرُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا فَهُلْكُوا."

حضرت لام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کی آیت فلما نسوا
ماذکروا.... جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم
نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، کی تفسیر کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا: "ان لوگوں کے تین گروہ تھے:

۱۔ جو خود بھی نیک کام کرتے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے
انہوں نے نجات پائی۔

نہیں عن المحرکرنے والے افراد نے انہیں جواب دیا: "ہم اس قوم پر
امتمام جحث کرتا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ان کا کوئی عندر باقی نہ رہے اور
ہمارے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس غلط کام میں ہم ان کے
ساتھ نہیں ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط روشن سے باز آ جائیں۔"
لیکن ان لوگوں پر کسی ناسخ کی نصیحت کا رگرہ نہ ہوئی اور وہ بدستور اپنی
ضد پر قائم رہے۔

جب نصیحت کرنے والے افراد نے اس قوم کا اجتماعی رویہ دیکھا تو
انہوں نے وہ شر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شر میں جا کر آباد ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دن کی مملت دی تاکہ وہ اپنی اصلاح
کر لیں لیکن انہوں نے اپنی سابقہ روشن کو قائم رکھا۔ آخر کار ایک رات اس قوم
پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور تمام افراد بندروں کی صورت میں مسخر ہو گئے۔
صحیح کے وقت شر کا دروازہ نہ کھلا تو ساتھ رہنے والے لوگوں کو تشویش لاحق
ہوئی کہ اس شر کا دروازہ ابھی تک کیوں بند ہے؟

لوگ جمع ہو کر شر کے دروازے پر آئے اور بڑی دیر تک دستک
دیتے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے شر پناہ کے ساتھ سیر ہیاں لگائیں
اور جا کر دروازہ کھولا۔

جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے عجیب دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ تمام
لوگ بندرنیں چکے ہیں ان میں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا اور بندرا اپنے اپنے
دروازوں پر بیٹھے ہوئے حضرت اور یاس کی تصویر نے ایک دوسرے کو دیکھ
رہے تھے۔

اسے مذہب کا حصہ تصور کرنے لگیں تو وہ آسانی سے اس عمل کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ہاں رفتہ رفتہ اور دلیل و بہان سے ایسا کرنا ممکن ہے۔ انتظامیہ کے لوگ ان پر سخت تاریخ ہوئے اور انہیں قید کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے انہیں زندان بیٹھ دیا۔

جب کافی عرصے تک ان کی خبر نہ آئی تو حضرت شمعونؓ ان کی خبر لینے شر انتظامیہ گئے، وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ دونوں مبلغ پہلے ہی دن گرفتار ہو کر زندان بیٹھ گئے تھے۔

حضرت شمعونؓ نے داروغہ سے مل کر ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا: ”میں نے تمہیں کیا یہ نکتہ نہیں سمجھایا تھا کہ تبلیغ کی ابتداء طالموں اور طاقتوں لوگوں سے نہ کرنا، بہر نوع میں اپنے طور پر تمہاری رہائی کی کوشش کروں گا۔“ پھر آپؐ قید خانے سے باہر آئے اور آپؐ نے غریب طبقے سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، غریب طبقہ ان کی تبلیغ سے متاثر ہونے لگا، اس طبقے نے ان کا تعارف اپنے سے ذرا برتر طبقے سے کر لیا، آپؐ نے اپنے استدلال اور شیریں میانی سے انہیں بھی متاثر کیا، آہستہ آہستہ ان کی شرست بادشاہ تک جا پہنچی۔

بادشاہ نے پوچھا: ”اسے ہمارے شر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟“

بادشاہ کو بتایا گیا: ”انہیں اس شر میں دو ماہ ہوئے ہیں۔“

بادشاہ نے حکم دیا: ”اسے ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔“

حضرت حضرت شمعونؓ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا گیا تو آپؐ اس کے پاس

شخص کی براہی بری ہے اور تمہاری براہی زیادہ بری ہے کیونکہ تم ہم سے نسبت رکھتے ہو (کیونکہ تم ہماری طرف منسوب ہو اور آزاد کردہ رسول کے بیٹے ہو اسی لئے نیکی تمہارے لئے اور وہ کی بہ نسبت زیادہ ضروری ہے اور تمہارے لئے براہی زیادہ باعث عار ہے)۔

لامام عالیٰ مقام نے شرقی کو یہ نصیحت اس لئے کی تھی کہ آپؐ کو اس کی شراب نوشی کا علم ہو چکا تھا اور آپؐ نے حسین کنایہ سے اسے نصیحت فرمائی تھی۔ (۱)

﴿زَمِّي وَ شَانِسْتَقِي﴾ سے امر بالمعروف کرنا چاہئے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیرون کاروں سے وداع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپؐ نے انہیں جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہمیشہ کمزور افراد کے مددگار نہیں اور ستم کاروں سے پر ہیز کریں۔ پھر آپؐ نے ان میں سے دو افراد کو تبلیغ دین کے لئے انتظامیہ روائہ فرمایا۔

آپؐ کے بھیجے ہوئے مبلغ اس دن شر انتظامیہ میں وارد ہوئے جس دن انتظامیہ میں ہوں کی رونمائی ہوئی تھی اور پورا شر اس دن عید منا رہا تھا۔

جب انہوں نے یہ صریح گراہی دیکھی تو شر والوں کو خوب لعنت ملامت کی۔

یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب لوگ ایک کام کے عادی ہو جائیں اور

۱۔ انوار البیہیہ ص ۶۷۔

مبروص کے لئے دعا کریں تو وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔

حضرت شمعون نے کہا: ”هم ابھی تجربہ کر کے تمہاری صداقت کو آزمائیتے ہیں۔“

یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ برس کے چند مریض لائے جائیں۔
چنانچہ برس کے دو مریض لائے گئے۔

حضرت شمعون نے کہا: ”ایک مریض کو تم شفایاب کراؤ۔“
انہوں نے ایک مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض زائل ہو گیا۔

حضرت شمعون نے کہا: ”یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دوسرے مریض کے جسم پر حضرت شمعون نے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی صحت یاب ہو گیا۔
حضرت شمعون نے کہا: ”اگر تم ایک اور کام کر کے دکھا دو تو میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں گا اور تمہارا ندھب قبول کرلوں گا۔“

انہوں نے کہا: ”بیتا! میں کونسا کام آپ؟ ہم سے کرنا چاہتے ہیں؟“
حضرت شمعون نے کہا: ”اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ واقعی مردے زندہ کر سکتا ہے تو کیا تمہاری دعا سے بھی مردہ زندہ کر دے گا؟“

انہوں نے کہا: ”بے شک ہمارا خدا مردے زندہ کرتا ہے اور ہم اگر کسی مردے کو زندہ کرنے کی دعائیں نگیں تو یقیناً مردہ زندہ ہو جائے گا۔“

حضرت شمعون نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا: ”بادشاہ! اب ان

تشریف لے گئے۔ بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو وہ آپ کی حکمت و دانش سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس رہیں۔ حضرت شمعون اس کے مصاحب من گئے۔

ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک ڈراونٹ خواب دیکھا اور حضرت شمعون کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت شمعون نے اس کی بہترین تعبیر دی۔

کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ ایک ہولناک خواب دیکھا تو اس مرتبہ بھی حضرت شمعون نے اس کی اچھی تعبیر دی جو کہ بادشاہ کو بہت پسند آئی اور یوں حضرت شمعون نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل و دماغ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔

جب انہوں نے بادشاہ کے دل و دماغ کو اپنا مطیع بنا لیا تو ایک دن انہوں نے بادشاہ سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسے دو افراد کو زندان میں قید کر رکھا ہے جو آپ کے مذہب و عقیدہ کے مخالف تھے؟“
بادشاہ نے کہا: ”بھی ہاں! درست ہے۔“

حضرت شمعون نے کہا: ”میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔“
جب انہیں زندان سے باہر لایا گیا تو حضرت شمعون نے کہا: ”تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟“

انہوں نے کہا: ”ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔“
حضرت شمعون نے کہا: ”تو جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری دعا بھی قبول کرتا ہے؟“

انہوں نے کہا: ”بھی ہاں! ہم اگر کسی مریض، اندھے، کو زخمی یا

تمہاری سچائی کا یقین آچکا ہے، اب میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔“

حضرت شمعونؑ کو دیکھ کر بادشاہ نے بھی اسلام قبول کیا۔

جب بادشاہ مسلمان ہو گیا تو تمام وزراء اور درباری بھی مسلمان ہو گئے اور یوں چند دنوں میں شر انطاکیہ کے تمام مردوں مسلمان ہو گئے۔ (۱)

خدا کیا چاہتا ہے؟

شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو تباہ و بر باد کرنے کے لئے دو فرشتوں کو بھیجا۔

جب فرشتے اس شہر میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آدمی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔

ان میں سے ایک فرشتے نے کہا: ”اس شہر کو تباہ کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے متعلق پوچھ لینا چاہئے۔ کیا اسے بھی دوسروں کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے یا اسے نجات دی جائے؟“

دوسرا فرشتے نے کہا: ”ہمیں اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمارا کام صرف اس کی تعمیل کرنا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی جس نے سوال کرنے سے منع کیا

لوگوں کی موت یقینی ہے کیونکہ ان کی دعا سے مردہ زندہ ہو نہیں سکے گا، آپ کی مردے کے زندہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں؟“

بادشاہ نے کہا: ”چند سال پہلے میرا جوان پیٹا مر گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہو جائے۔“

حضرت شمعونؑ نے کہا: ”تو پھر آپ انہیں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر پر لے جائیں۔“

بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیٹے کی قبر پر آیا اور کہا: ”یہ میرے جوان بیٹے کی قبر ہے تم اسے زندہ کرو۔“

ان دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے بلند کئے، حضرت شمعونؑ بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لئے بلند کئے۔ تھوڑی دیر بعد قبر شکافتہ ہو گئی اور بادشاہ کا پیٹا کفن جھلاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا اور باپ کے سامنے اکر جیزت کی تصویرین کر کھڑا ہو گیا۔

بادشاہ نے کہا: ”پیٹا کیا ہوا ہے تو پریشان کیوں ہے۔“

تو اس نے کہا: ”میں مرچ کا تھا اور اچانک مجھے ایک وحشت نے گھیر لیا تھا، میں نے دیکھا تو مجھے تین افراد نظر آئے جو خدا سے میری زندگی کی درخواست کر رہے تھے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔“

بادشاہ نے کہا: ”آن کو پہچانو۔“

جب لڑکے کی نظر ان تین بزرگوں پر پڑی تو بے ساختہ کہا: ”لما جان! واقعی یہی تین افراد تھے جنہوں نے میری زندگی کے لئے درخواست کی تھی۔“

حضرت شمعونؑ نے ان دو قیدیوں کی طرف نظر کی اور کہا: ”اب مجھے

فرمایا: "او کالذی مرن علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی هذہ اللہ بعد موتها۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۵۹) تم نے اس کے حال پر نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزر اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھے کے گر پڑا تھا یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا اللہ اس گاؤں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟"

امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا نبی کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کی کہ میں نے روئے زمین پر کسی شر کو یوں امتیاز نہیں دیا اور اس میں بہترین درخت لگائے، لیکن اب اس شر میں عمدہ درختوں کی وجہے "خُرُونُوب" کے درخت اگ رہے ہیں۔" (۱)

جب بنی اسرائیل نے یہ پیغام سننا تو انہوں نے اس پیغام کا خوب مذاق اڑایا۔

حضرت ارمیا نے بنی اسرائیل کے اس رویے کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی: "اے ارمیا! بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ جس شر کو میں نے امتیاز خشاوہ بیت المقدس ہے اور بہترین درخت بنی اسرائیل ہیں جنہیں میں نے مسافت سے نکال کر دن عطا کیا اور جن سے میں نے تم گر بادشاہوں کو دور کیا، اب انہوں نے میری اطاعت سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور دن رات میری نافرمانی میں مصروف ہیں، میں ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو بے دریغ ان کا خون بھائے گا اور ان کے مال

۱۔ "خُرُونُوب" خاور نون کے ضمہ کے ساتھ اخروت کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جس کے زور دیکھوں ہوتے ہیں اور اس کے چٹکے میں لمبیا کی طرح ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ درخت انجامی ناکارہ سمجھا جاتا ہے۔ (فرہنگ عمید)

تھا کہ اس شخص کو بھی اور لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دو۔ (فقد حل به معهم سخطی ان هذا لم يتغير وجهه فقط غضا) میں دوسرے بدکاروں کی طرح اس پر بھی ناراض ہوں کیونکہ یہ عابد اپنی آنکھوں سے میری نافرمانی کو دیکھتا رہا لیکن آج تک اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار طاری نہیں ہوئے۔

جس فرشتے نے اللہ سے اس کے متعلق دریافت کرنا چاہا تھا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا وہ بھی تک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہے۔ (۲)

شفہ الاسلام کلینیٰ امام محمد باقرؑ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ افراد کو ہلاک کروں گا، ان میں سے چالیس ہزار بدکار ہیں اور سانچھے ہزار اچھے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے التجاکی: "بار ایمی! گناہ گار تو گناہوں کی بدولت ہلاک ہوئے لیکن سانچھے ہزار بے گناہ افراد کیوں ہلاک ہوں گے؟"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "داهنووا اهل المعاصی ولم یغضبووا لفضیبی۔ انہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ سمل انگاری روا رکھی ہوئی ہے اور جن پر میں غلبناک ہوں یہ ان پر غلبناک نہیں ہوئے۔" (۲)

الکتب عالموں اور دانشوروں پر عذاب اللہ

قرآن مجید میں رب العزت نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد

۱۔ الکتب والا لقب ج ۱ ص ۳۱۰۔

۲۔ فروع کافی ج ۵ ص ۵۶۔

کو مسلط کر دیا جس نے اسرائیلیوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ کر آگ لگادی اور بقیۃ السیف افراد کو غلام و کنیز بنا کر بابل لے گیا۔

خخت نصر نے حضرت ارمیا کو اپنے پاس بلایا اور کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو میرے متعلق پہلے ہی پیش کوئی کر دی تھی، اب اگر پسند کرو تو ہمارے ساتھ رہو اور اگر ہمارے پاس رہنا تمہیں ناگوار ہو تو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔“

حضرت ارمیا نے کہا: ”میں تمہارے ساتھ خیس رہوں گا، میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔“

پھر حضرت ارمیا نے کچھ انجیخ اور شیرہ کی مقدار اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر شہر سے باہر جانے لگے، جب انہوں نے شہر کی تباہ حالی دیکھی اور کتوں کو انسانوں کا گوشت بھجوڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ان لوگوں کی موت کے بعد اللہ انہیں کیسے دوبادہ زندہ کرے گا؟

خداوند عالم نے انہیں اسی وقت موت دے دی اور ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی موت نے اپنی پیش میں لے لیا۔

پورے سو بر س تک حضرت ارمیا اور ان کے گدھے پر موت طاری رہی۔ پھر سو بر س کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبادہ زندہ کیا تو وہ آنکھیں جھکتے ہوئے اٹھ یتھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ آواز انہیں سنائی دی: ”کم لبست“ تم لکنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟“

انہوں نے کہا: ”میں ایک دن۔“

پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو شام ہونے کو تھی اور جب وہ

لوٹ لے گا، اگر یہ مجھ سے دشمن کے دور ہونے کی بھی دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا اور پورے ایک سو سال تک اس شہر کو دیران رکھوں گا، سو بر س بعد اسے آباد کروں گا۔“

ارمیا بنی نے جب یہ پیغام سنایا تو بنی اسرائیل کے علماء زارو قطار رونے لگے اور حضرت ارمیا کی خدمت میں عرض کی: ”آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے چھنکارے کی دعا مانگیں، ہم نے کبھی بنی اسرائیل کے غلط کاموں میں شرکت نہیں کی۔“

حضرت ارمیا نے سات دن روزہ رکھا اور اللہ کے حضور علمائے بنی اسرائیل کی درخواست پیش کی لیکن اللہ کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے پھر سات دن روزے رکھے، بعد ازاں اسرائیلی علماء کی درخواست پیش کی لیکن اس مرتبہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ارمیا نے پھر سات دن مزید روزے رکھے اور ان کی التجبار گاہ احادیث میں پیش کی۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ جواب ملا: ”ارمیا! کیا تم میری تقدیر اور میرے فیصلے کو ختم کرنا چاہتے ہو اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارا چہرہ پشت کی جانب کر دیا جائے گا۔ ان نام نہاد علماء سے کہو کہ ”لانکم رأيتم المنكر فلم تتقروا“ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو بدای کرتے ہوئے دیکھا لیکن تم نے انہیں منع نہیں کیا۔ اسی لئے ان کے جرم میں تم بھی براہ کے شریک ہو اور تم پر بھی اسی طرح سے میرا عذاب نازل ہو گا جیسا کہ دوسرا بے بدکاروں پر نازل ہو گا۔“

لام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ان پر خخت نصر

چنانچہ زیاد قندی کے پاس ستر ہزار اشرفی تھی اور علی بن ابی حزہ کے پاس تیس ہزار اشرفیاں موجود تھیں۔

امام عالیٰ مقام کی شہادت کے بعد ان کی نیت میں فتوح آگیا اور امام علی رضا علیہ السلام کو امام زمانہ تسلیم کرنے کی وجہے انہوں نے امام موئی کاظم علیہ السلام کی وفات کا ہی سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دن رات لوگوں میں اس نظریے کا پرچار کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور یوں مذہب و اقہنیہ کی داغ بیل ڈالی گئی۔

امام موئی کاظم کے اجلہ تلامدہ میں سے یونس بن عبد الرحمن لوگوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے زیاد قندی اور علی بن ابی حزہ ان کے مخالف ہو گئے اور اپنے ساتھ ملانے کے لئے انہیں دس ہزار اشرفی کا لائق دیا۔

یونس بن عبد الرحمن صاحب بصیرت شخص تھے انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا: ”امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب لوگوں میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے (لوگوں کو برائی سے روکے) اگر عالم نے ایسا نہ کیا تو اس سے نور ایمان سلب کر لیا جائے گا، میں کسی بھی حالت میں اس دینی جہاد اور امر بالمعروف و نهى عن المکر کو ترک نہیں کر سکتا۔“ (۱)

۱۔ تحقیق الاجاب ص ۳۲۵۔

اپنے گھر سے نکلے تھے تو صحیح کا وقت تھا۔

انہوں نے فوراً اپنے کلام کی اصلاح کرتے ہوئے کہا: ”خدایا! پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ یہاں سویا پڑا رہا۔“

تو موت و حیات کے خالق کی انہیں یہ آواز سنائی دی:

”بل لبشت مائناه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر الى حمارك و ل يجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف نتشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قادر.“

تم اس حالت میں سورس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئیں، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں اور یہ سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں قدرت کا نمونہ بنا کیں اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیسے ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو یوں اٹھے کہ اب میں یقین کامل کے ساتھ جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“ (۱)

علماء کا فریضہ کیا ہے؟

جب امام موئی کاظم علیہ السلام کو زہر سم سے شہید کیا گیا تو اس وقت امام کے چند وکلاء کے پاس خس کی ایک بڑی رقم موجود تھی۔

۱۔ سورہ البقرہ آیت ۲۵۹۔

حدائق الانوار ج ۱۳ ص ۳۵۳۔ تفسیر البرہان ج ۱ ص ۳۳۸۔

حضرت عمرؓ نے کہا: ”میں اس شرط پر تیری غلطی معاف کر سکتا ہوں کہ تو آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔“

اس نے کہا: ”خدا کی قسم میں آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔“

حضرت عمرؓ نے کہا: ”مطمئن ہو جاؤ میں نے بھی معاف کر دیا۔“ (۱)

حکام کا صحیح ہونا ضروری ہے

مامون الرشید کا دستور تھا کہ وہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن کھلی کچھری لگاتا تھا۔ ان دنوں میں ہر شخص کو اس سے ملنے کی کھلی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ ان دنوں عوام سے ملتا اور ان کے مسائل سنتا اور مقدمات کے فیصلے بھی کرتا تھا۔

ایک مرتبہ جمعرات کے دن اس نے دربارِ عام لگایا اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کو دائیں جانب بٹھایا۔

محمد بن شان کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنے آقا و مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔

انتہی میں مامون الرشید کو بتایا گیا کہ صوفیہ میں سے ایک صوفی نے چوری کی اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس وقت وہ پولیس کی حرast میں ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس سے گفتگو کر لیں۔

مامون نے کہا: ”بیتھ رہے! اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔“

اس شخص کو مامون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر

۱۔ الخدیرج ۶۱۔ حوالہ شرح ابن القید ج ۱ ص ۶۱۔

تبليغ کیلئے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہئے

حضرت عمرؓ خطا ب رات کے وقت مدینہ کے گلی کوچوں میں بھیں بدلت کر چکر لگایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اندر سے مشکوک قسم کی آوازیں سنیں۔ وہ فوراً دیوار پھلانگ کر مکان کے صحن میں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک شخص کو ناخرم عورت کے ساتھ تمثیلی میں بیٹھا ہوا دیکھا جس کے سامنے شراب کا ایک جام بھی رکھا ہوا تھا۔

حضرت عمرؓ نے اسے سرزنش کی: ”لیا تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رازِ فاش نہیں کرے گا اور یہ کہ تجھے چھپ کر خدا کی نارفرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آئی؟“

اس شخص نے بڑے حوصلے سے کہا: ”عمرؓ! صبر کرو جلد بازی سے کام نہ لو، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تم تین غلطیاں کر چکے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے: ولا تجسسوا۔ (تجسس مت کرو) مگر تم نے ہماری جاسوسی کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: وَأَتُوا الْبَيْوَنَ ابوابہا۔ (دروازوں سے گھروں میں داخل ہو) مگر تم دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہو یہ تمہاری دوسری غلطی ہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: وَاذَا دَخَلْتُمْ بِيوْنَ فَسَلِّمُوا علی اهلها۔ (جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھروں کو سلام کرو) مگر تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ اس طرح تم بیک وقت تین غلطیاں کر چکے ہو۔

ما افأء اللہ علی رسله من اهل القری فللہ ولرسول ولذی
القری والیتامی والمساکین و ابن السیل کی لا یکون دولة بین الاغیاء
منکم وما اتا کم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانھوا وانقواللہ ان اللہ
شدید العقاب۔ (سورۃ الحشر آیت ۷)

(جو مال خدا نے رسول کو دیہات والوں سے دلایا ہے وہ خدا اور رسول
اور رسول کے رشتہ داروں اور تیہوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے تاکہ جو
لوگ تم میں سے دولت مند ہیں ہر پھر کر دولت ان ہی میں نہ رہے۔ جو رسول
تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور خدا سے
ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔)

ان دونوں آیات میں مسافرین اور فقراء کا حق مقرر کیا گیا ہے اور میں
اس وقت مسافر بھی ہوں اور فقیر بھی ہوں۔“

مامون نے صوفی کا استدلال سن کر کہا: ”کیا تیری اس یادہ گوئی کی
وجہ سے میں تجھ پر حد شرعی نافذ نہیں کروں گا؟ مجھے خدا کی قسم میں چوری کی
وجہ سے تیرا باتھ کاٹ دوں گا۔“

صوفی نے کہا: ”تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا و مالک ہوں، ایک
غلام اپنے مالک پر حد نافذ نہیں کر سکتا۔“

مامون نے کہا: ”میں تیرا غلام کب سے قرار پایا؟“
صوفی نے کہا: ”تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے
تیری مال کو خریدا تھا، اسی نے تو تمام شرق و غرب میں بنے والے مسلمانوں کا
غلام ہے اور جب تک تمام مسلمان بیت المال کے اپنے حصے کو معاف نہ کر دیں

زہدو پارسائی کے آثار نمایاں تھے، اس کی پیشانی طویل سجدوں کی وجہ سے
داع غدار تھی۔

مامون نے اسے دیکھ کر کہا: ”عبد وزاہد ہونے کے باوجود تجھے چوری
کرتے چیانہ آئی؟ تیری شکل متفقین جیسی اور کروار فاسقین جیسا ہے۔“

اس صوفی نے کسی خوف کے بغیر کہا: ”مامون! میں نے مجبور ہو
کر چوری کی ہے کیونکہ تو نے خس اور غنیمت میں سے مجھے میرا حق نہیں
دیا تھا اسی لئے میں نے اپنے جسم و جان کے رشتے کو عال رکھنے کے لئے
چوری کی ہے۔“

مامون نے کہا: ”خس اور غنیمت میں تیرا حق کیا ہے؟“
صوفی نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے خس کو چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: واعلموا انما غنمتم من شیء فان اللہ خمسة
ولرسول ولذی القری والیتامی والمساکین و ابن السیل ان کنتم امتنتم
باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعن والله علی کل
شیء قدیر۔ (سورۃ انفال آیت ۲۱)

(اور جان لو جو مال تم لوز کر حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ،
رسول، رسول کے قرابت داروں اور تیہوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، اگر
تم خدا پر اس غبی امداد پر ایمان لا پکے ہو جو ہم نے اپنے ہدے پر فیصلے کے
دن (جنگ بدر) نازل کی تھی۔ جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دو جماعتیں
مکرائی تھیں اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔)

علاوہ ازیں اللہ نے غنیمت کو بھی چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

نظم

محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت
 مست گفت ایدوست این پراهن است افسار نیست
 گفت مستی زان سبب افтан و خیزان میروی
 گفت جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست
 گفت می باید تورا تا خانه قاضی برم
 گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست
 گفت نزدیکست والی راسرای آنجا رویم
 گفت والی از کجا در خانه خمار نیست
 گفت تا داروغه را گوئیم ، در مسجد بخواب
 گفت مسجد خواب گاه مردم بدکار نیست
 گفت دیناری بده پنهان و خودرا وارهان
 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست
 گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم
 گفت بوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست
 گفت آگه نیستی کز سدر افتادت کلاه
 گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست
 گفت می بسیار خوردی زان چنین بیخود شدی
 گفت ای بی هوده گو ، حرف کم و بسیار نیست
 گفت باید حد زند هشیار مردم ، مست را
 گفت هشیاری بیار ، اینجا کسی هشیار نیست
 (پوین اعصابی)

تو شرعی طور پر تمام مسلمانوں کا غلام رہے گا۔

اور ہاں یہ بھی سن لے کہ میں نے اپنا حصہ معاف نہیں کیا اور تیری زیادتی کی داستان صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی، تیری جمارت کی انتہا تو یہ ہے کہ پوری خس کا مالک تو خود ہن پیٹھا ہے اور تو نے آل رسولؐ کے ساتھ ساتھ ہم جیسے غریبوں کو بھی خس سے محروم کر رکھا ہے۔

مجھ پر حد شرعی نافذ کرنے سے قبل تم اپنے آپ کو پاک کرو، جو شخص خود پاک ہو وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا۔“

مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا: ”آپ کیا فرماتے ہیں؟“

امام عالی مقام نے فرمایا: ”الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے کہ ”فللہ الحجۃ البالغۃ“ حکم استدلال خدا کی طرف سے ہے۔

یقیناً اگر یہ استدلال جاہل کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے جمالت سے باز رکھ سکتا ہے اور اگر کسی عالم کے سامنے یہ استدلال کیا جائے تو اس کے لئے فکر کی راہیں کھل سکتی ہیں، دنیا و آخرت استدلال و برہان پر قائم ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے تمہارے سامنے خوب استدلال کیا۔“

مامون نے صوفی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا اور یوں وہ حکم استدلال کی وجہ سے بڑا سے بڑا گیا۔(۱)

مست نے کہا: ”یہ بہت پرلا ہے اس میں تارو پود کے نقش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔“

محتب نے کہا: ”تو شراب کے نئے میں اس قدر دھت ہے کہ تیرے سر سے ٹوپی گر گئی ہے مگر تجھے اس کا پتا تک نہیں ہے۔“

مست نے کہا: ”کوئی بات نہیں، سر میں عقل ہونی چاہئے، ٹوپی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔“

محتب نے کہا: ”تو نے زیادہ چڑھار کھی ہے اسی لئے تو بے خود ہو چکا ہے۔“

مست نے کہا: ”اے بے ہودہ بجواس کرنے والے، میں نے کوئی کم و بیش الفاظ نہیں کہے۔“

محتب نے کہا: ”عقل مند افراد کو چاہئے کہ مست افراد پر حد جاری کریں۔“

مست نے کہا: ”پسلے کوئی عقل مند تو یہاں لے آؤ، مگر یہاں کوئی عقل مند موجود نہیں ہے۔“

چند روایات

قال رسول اللہ ﷺ کیف بکم اذا فسدت نساو کم و فسوق شبابکم ولم تأمرروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يارسول اللہ؟

قال نعم و شرمن ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيت عنالمعروف فقيل له يارسول اللہ ويكون ذلك؟

محتب نے راہ میں ایک مست کو دیکھا تو اس کا گریبان پکڑ لیا۔

مست نے کہا: ”اے دوست یہ گریبان ہے، لگام نہیں ہے۔“

محتب نے کہا: ”تو نے شراب چڑھار کھی ہے اسی لئے تو افال و خیال ہو کر چل رہا ہے۔“

مست نے کہا: ”اس کا میرے چلنے سے کوئی واسطہ نہیں، دراصل راستہ ہی ناہموار ہے۔“

محتب نے کہا: ”میں تجھے قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔“

مست نے کہا: ”صح کے وقت آنا قاضی نصف شب کے وقت بیدار نہیں ہوتا۔“

محتب نے کہا: ”والی کی رہائش گاہ قریب ہے، میں تجھے وہاں لے جاتا ہوں۔“

مست نے کہا: ”بھلا اس وقت والی کماں؟ والی کا گھر مے خانے کا دروازہ نہیں کر کھلا ہوا ہو۔“

محتب نے کہا: ”میں تیری شکایت داروغہ سے کرتا ہوں، توفی الحال مسجد میں سوجا۔“

مست نے کہا: ”مسجد بدکار لوگوں کی خواب گاہ نہیں ہے۔“

محتب نے کہا: ”پھر خاموشی سے مجھے ایک دینار دیدے اور آزاد ہو جا۔“

مست نے کہا: ”شریعت کا کام درہم و دینار سے نہیں ہوتا۔“

محتب نے کہا: ”جرمانہ میں میں تیرا بس اتارتا ہوں۔“

المظالم و تعمـر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر فانكروا
بقلوبكم و الفظوا بالستكم و صكوا بها جباهم ولا تحافوا في الله لومة
لائم فـان اتعظوا والـى الحق رجعوا فلا سـبيل عليهم "انما السـبيل على
الذين يظلمون الناس ويـبغون في الارض بغير الحق او لـئـك لهم عـذـاب
عـظـيم" هـنـاك فـجاـهـدـو هـم بـاـبـدـانـكـم وـاـبـغـضـوـهـم بـقـلـوبـكـم غـير طـالـيـن
سـلـطـانـاـ وـلا باـغـيـنـ مـاـلا وـلامـرـ يـدـيـنـ بـظـلـمـ ظـفـرـاـ حـتـىـ يـفـيـؤـاـ الىـ اـمـرـ اللهـ
وـيـمـضـوـاـ عـلـىـ طـاعـتـهـ.

"فروع کافی ج ۵ ص ۵۶"

جاد جعفری بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "آخری زمانہ میں
مسلمانوں کے اندر ایک ریکار طبقہ ہو گا جو ظاہری عبادات جمالائے گا اور قرآن
،مجید کی تلاوت بھی کرے گا، وہ احق قسم کے حدث ہوں گے اور امر بالمعروف
اور نهى عن المحرک فرض نہیں سمجھیں گے، ہاں جب انہیں نقصان کا اندیشہ
نہیں ہو گا تو امر و نهى کو واجب قرار دیں گے اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہیں گے
کہ کسی نہ کسی طرح سے دینی احکام سے راہ فرار اختیار کر سکیں اور اس کے لئے
کوئی عذر تلاش کر سکیں، وہ لوگ ہمیشہ اہل علم کی لفڑیں تلاش کریں گے اور
اہل علم کے فاسد اعمال کی پیروی کریں گے، یہ لوگ نماز اور روزہ اور دوسرا
اس قسم کی عبادات جمالائیں گے جن سے ان کے جان و مال کو کوئی ضرر نہ
پہنچے، اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ نماز و روزہ ان کے مال و جان کے لئے ضرر
رسال ہیں تو وہ انہیں بھی اسی طرح سے چھوڑ دیں جیسا کہ انہوں نے بلند ترین
اور صاحب شرف فریضہ کو چھوڑا ہے۔"

قال نعم و شرمن ذلك كـيف بـكم اذا رأـيـتمـ المعـرـوفـ منـكـراـ وـالـمـنـكـرـ
معـرـوفـاـ.

"فروع کافی ج ۵ ص ۵۹"

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اس وقت تمہاری حالت
کیا ہو گی جب تمہاری عورت میں خراب ہو جائیں گی اور تمہارے جوان بھو جائیں
گے اور اس وقت تم امر بالمعروف اور نهى عن المحرک نہیں کرو گے۔"

آپ سے پوچھا گیا: "یار رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو گا؟"

آپ نے فرمایا: "بلکہ اس سے بھی بدتر حالت ہو گی جب تم برائی کرنے کا حکم
دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔"

آپ سے پوچھا گیا: "یار رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو گا؟"

آپ نے فرمایا: "بلکہ اس سے بھی بدتر حالت ہو گی جب تم نیکی کو برائی اور برائی
کو نیکی سمجھنے لگو گے۔"

عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم فيهم
قوم مراون و يتسلكون حذاء سفهاء لا يوجبون امراً ب معروف ولا نهيا عن
منكر الا اذا امنوا بالضرر و يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير يتبعون
زلة العلماء و فساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام و مالا يكلهم في
نفس ولا مال ولو اضرت الصلاة بسائر ما يعملون باموالهم و ابدانهم
لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها الى ان قال (ع) ان الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء فريضة
عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد

ذلك ونزلت بهم العقوبات فامروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقربا اجلًا ولم يقطعا رزقا ان الامر ينزل من السماء الى الارض كقطر المطر الى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة او نقصانالخ.

"فروع کافی ج ۵ ص ۵۸"

امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد و شاء کے بعد فرمایا: "تم سے پلے جو امتیں ہلاک ہوئیں تو انکی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور خدا پرست اور علماء ائمہ منع نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلسل خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے اور علماء و زبانے بھی آنکھیں بند کئے رکھیں تو ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے۔

لوگو! متوجہ رہو اور امر بالمعروف اور نهى عن المنکر کا فریضہ انجام دو اور یہ بھی جان لو کہ امر و نهى سے نہ تموت قریب ہوتی ہے اور نہ ہی رزق قطع ہوتا ہے اور تقدیر الہی میں جو کچھ کسی کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ بارش کی طرح زمین پر نازل ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کا مقدر مل کر ہی رہتا ہے۔"

عن ابی عبد اللہ ان رجالا من جنهم جاءه الى رسول الله فقال يا رسول الله اخبرنى ما افضل في الاسلام قال الايمان بالله قال ثم ماذا قال ثم صلة الرحم قال ثم ماذا قال ثم الامر بالمعروف والنهى عن المنکر قال فقال الرجل فاي الاعمال ابغض الى الله قال الشرك بالله قال ثم ماذا قال قطعة الرحيم قال ثم ماذا قال الامر بالمنکر والنهى عن المعروف.

"فروع کافی ج ۵ ص ۵۸"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ خشم کا ایک شخص رسول خدا صلی

پھر آپ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: "امر بالمعروف اور نهى عن المنکر انہیں علیم السلام کا راستہ اور صالحین کا شیوه ہے، امر و نهى عظیم فریضہ ہے، اسی سے باقی فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے اور راستے پر امن رہتے ہیں اور اسی سے کب حلال وابستہ ہے اور مظلوموں کی حق رسی اسی فرض سے ممکن ہے اور اسی فریضہ سے زمین کی آبادی والستہ ہے اور اسی فریضہ سے دشمنوں سے لاقام لیا جاسکتا ہے اور دین و دنیا کے تمام امور کی استواری امر بالمعروف و نهى عن المنکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ معصیت کاروں کے سامنے قلب و زبان کے ساتھ قیام کرو اور زبان کے نیزے سے ان کی پیشانیوں کو رگڑو اور اپنی زبان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس کے لئے کسی ملامت کننده کی ملامت سے خوف نہ کھاؤ۔ اگر وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں اور حق کی جانب رجوع کر لیں تو پھر تمہیں ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہے۔ تم سے جہاں تک ممکن ہو ان لوگوں سے مبارزہ کرو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو زمین پر ناحق بغوات کرتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے خلاف اپنے جسم سے جہاد کرو اور اپنے دلوں میں ان سے نفرت کرو اور تمہاری نظر ریاست و سلطنت کے حصول پر نہ ہو اور دولت کا تمہیں لائق نہ ہو اور تمہیں چاہئے کہ ظلم کو کامیابی کا ذریعہ مت بناؤ۔ تم عدل و انصاف کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ سرکش لوگ خدا کے فرمان کی جانب لوٹ آئیں اور اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں۔"

خطب امیر المؤمنین فحمد لله و اثنى عليه وقال: اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيث ماعملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحجار عن

بیٹھنے سے پرہیز کرو۔“

عن مساعدة بن صدقة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكرا واجب هو على الامة جميعا ف قال لا فقيل له ولم؟

قال انما هو على القوى المطاع، العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلا الى اى من اى يقول من الحق الى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل ”ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر“ وهذا خاص غير عام كما قال الله عزوجل ”ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون“ ولم يقل على امة موسى ولا على كل قومه وهم يومئذ امم مختلفة والامة واحدة فصاعدا كما قال الله عزوجل ”ان ابراهيم كان امة قاتلة“ يقول مطينا للله عزوجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج اذ كان لا قوة له ولا عندر ولا طاعة.

”فروع کافی ج ۵ ص ۵۹“

مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امر بالمعروف اور نہی عن المکر کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا یہ پوری امت پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“

پوچھا گیا: ”وہ کیوں؟“

آپ نے فرمایا: ”امر بالمعروف اور نہی عن المکر اس پر واجب ہے جس کے پاس قدرت ہو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوں اور وہ خود بھی نیکی اور برائی کو سمجھتا

الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”الله پر ایمان لانا۔“

اس نے پھر پوچھا: ”اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”صلہ رحمی۔“

اس نے پھر پوچھا: ”اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔“

اس نے پھر پوچھا: ”الله کو سب سے زیادہ کون سا عمل ناپسند ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہانا۔“

اس نے پھر پوچھا: ”اس کے بعد کون سا عمل ناپسند ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔“

الصادق علیہ السلام قال للحرث ابن مغیرہ ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل ماتكرهونه مما يدخل به علينا الاذى الخ.

الامام صادق علیہ السلام نے حرث بن مغیرہ سے فرمایا: ”تمہیں کیا چیز مانع ہے کہ جس کو دیکھو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اذیت دے رہا ہے اور لوگوں میں شکوہ کا سبب بن رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ اور اسے سرزنش اور نصیحت کرو اور محکم استدلال سے اسے برے کام سے روکو۔“

حرث کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”مولا! یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہماری بات نہ بانے اور ہماری پیروی نہ کرے۔“

آپ نے فرمایا: ”اگر وہ ایسا کرے تو تم اس سے دور ہو جاؤ اور اس کے ساتھ

- چار شرائط میان کرتے ہیں :
- ۱۔ انسان امر بالمعروف و نهى عن المنکر کرے جب وہ خود معروف اور منکر کو تجویزی سمجھتا ہو۔
 - ۲۔ ایسے گناہگار کو امر و نهى نہیں کرنی چاہئے جو گناہوں پر اصرار کرتا ہو اور اس کے قرآن و آثار سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر پیشان نہیں ہے۔
 - ۳۔ تبلیغ کی تاثیر کا بھی امکان ہو۔
 - ۴۔ امر و نهى کی وجہ سے مالی اور جانی نقصان کا اندازہ نہ ہو۔ درج بالا حدیث میں پہلی اور تیسرا شرط کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ واضح رہے کہ یہ شرائط اس امر و نهى سے متعلق ہیں جس کا تعلق ہاتھ اور زبان سے ہو لیکن دل سے برائی کوبرا سمجھنے کے لئے یہ شرائط نہیں ہیں۔
- ”اربعین ص ۱۰۶“

ہو، اگر وہ نیکی و بدی کی تمیز کرنے کا اہل نہ ہوگا تو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر باطل کی طرف لے جائے گا۔“ اور اس بات کی دلیل کہ امر و نهى ہر فرد پر واجب نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ”ولكُنْ مَنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَيِ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ“ (سورۃ آل عمران آیت ۱۰۳) (تم میں ایک گروہ ہونا چاہئے جو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نهى عن المنکر کرے)۔ یہ خاص ہے عام نہیں ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا: ”وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَيَهْدِلُونَ“ (سورۃ اعراف آیت ۱۵۹) (موسیٰ کی قوم میں ایک امت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عدل کرتے ہیں۔) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پوری قوم موسیٰ ہدایت کرتی ہے اور لفظ ”امت“ کا اطلاق بعض اوقات فرد واحد کے لئے بھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتَاللَّهَ“ (سورۃ جل جل آیت ۱۲۰) (بے شک ابراہیم اللہ تعالیٰ کی فرمادہ وار امت تھا۔)

اور ہم اس وقت خلفائے جور کے زیر تسلط ہیں اور اس وقت ہمیں کوئی قوت و قدرت حاصل نہیں ہے۔ اسی لئے عدم قدرت کی وجہ سے ہم پر امر بالمعروف و نهى عن المنکر واجب نہیں ہے۔

فروع کافی کی اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے شیخ بیهاء الدین عاملی اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امر و نهى کے لئے دو شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے اور فقہاء امر و نهى کی فرضیت کے لئے

فضائل علم و عالم با عمل

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. (سورة زمر آية ۹)

”کہہ دو! کیا عالم اور جاہل برادر ہو سکتے ہیں؟“

تم پر کبھی کوئی احسان کیا ہو تو تمہیں چاہئے کہ اس کے احسان کے بدلے میں اسے معاف کرو۔“

مدعی نے عرض کی: ”مولا! اس نے مجھ پر ایک احسان ضرور کیا تھا لیکن وہ احسان اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے باپ کا خون معاف کر دوں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”پھر تو کیا چاہتا ہے؟“

مدعی نے کہا: ”میں اپنے باپ کا قصاص چاہتا ہوں لیکن اگر یہ شخص خون بھا اور دبیت پر آمادہ ہو تو میں اس سے مصالحت کرنے پر بھی تیار ہوں۔“

امام علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا: ”یہ بتاؤ کہ اس نے تم سے کوئی بھلانی کی تھی؟“

مدعی نے عرض کی: ”فرزند رسول! اس شخص نے مجھے توحید و نبوت اور ائمہ طاہرین کی امامت کی تلقین کی تھی۔“

امام زین العابدین نے بڑے تجھ سے فرمایا: ”تو کیا یہ تعلیم تیرے باپ کے خون کی قیمت کے برادر نہیں ہے؟ خدا کی قسم انبیاء و ائمہ کے خون کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے خون کے برادر ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انبیاء و اوصیاء کے خون کا وزن کیا جاسکے۔“

پھر آپ نے قاتل کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ”اگر تو اس تعلیم کا اجر مجھے ہبہ کر دے تو میں تیری طرف سے خون بیہاد نہیں پر تیار ہوں۔“

قاتل نے عرض کی: ”مولا! مجھے اس ثواب کی زیادہ ضرورت ہے جبکہ آپ کو اس کی چندال ضرورت نہیں ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں،“

معارف دینی کی تعلیم کا اجر کیا ہے؟

امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: ”ایک شخص دوسراے شخص کو پکڑ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دعویٰ کیا کہ اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔“

قاتل نے آپ کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔

امام علیہ السلام نے قصاص کا حکم دیا اور مقتول کے بیٹے سے آپ نے خون معاف کرنے کی درخواست کی اور اس سے فرمایا: ”اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔“

مدعی خون معاف کرنے پر راضی نہ ہوا۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا: ”اگر اس شخص نے

ایک دینی مسئلے کی تعلیم کی قدر و قیمت

ایک عورت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں یوڑھی ہے میں اس کی طرف سے آپ سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے ان سوالات کے لئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: ”ضرور پوچھو۔“

اس عورت نے ایک سوال کیا، حضرت سیدہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح سے سائلہ نے آپ سے دس سوال پوچھے، آپ نے سب کے جوابات دیئے۔

پھر کثرت سوال کی وجہ سے سائلہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا: ”میں اب آپ کو مزید زحمت دینا پسند نہیں کرتی۔“

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: ”تمہارا جو جی چاہے پوچھو، اگر کسی شخص کو سونے کی ایک لاکھ اشرفی دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم یہ سامان چھٹت تک پہنچاؤ تو کیا کوئی شخص اس مزدوری کو کم خیال کرے گا؟“ سائلہ نے کہا: ”ہرگز نہیں۔“

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: ”میں تجھے جو مسائل بتا رہی ہوں ان میں سے ہر مسئلہ کے بدلتے میں مجھے زمین و آسمان اور ان کے مابین فاصلہ اگر جواہر سے بھرا ہوا حاصل ہو، تو مجھے ہر ایک مسئلہ کے عوض اتنا اجر مل رہا ہے۔ جب ایک لاکھ طلائی اشرفی کے بدلتے میں سامان کو چھٹت پر لے جانے والا مزدور اس کو اپنے لئے بوجھ نہیں سمجھتا تو میں اتنے بڑے اجر کے

قیامت کے دن مجھے اس ثواب کی ضرورت محسوس ہو گی اور میں نے جو قتل کیا ہے ایں کا تعلق مجھ سے اور مقتول سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے اور اس (فرزند مقتول) سے نہیں ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”تو گویا تم ثواب ہبہ کرنے کے عوض قصاص میں قتل ہونا پسند کرتے ہو؟“

مجرم نے جواب دیا: ”بھی ہاں۔“

پھر آپ نے مقتول کے بیٹے سے فرمایا: ”اس شخص نے تیرے باپ کو قتل کر کے تجھے تینی سے ہمکنار کیا اور تیرے باپ کو اس کی بقايا زندگی سے محروم کیا، اگر تو معاف کر دے اور صبر کر لے تو پھر تو بھی اپنے باپ کے ساتھ جنت میں ہو گا اور یاد رکھو کہ جنت میں جانے کا حق تمہیں اس مجرم کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ اس نے تجھے دین کے بیادی عقائد تعلیم کے ہیں، اس نے قتل کر کے جو جرم کیا ہے وہ کم ہے، البتہ اس نے جو نیکی کی ہے وہ اس جرم سے کئی گناہ زیادہ ہے، اگر تو اسے معاف کر دے تو میں تم دونوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث سناؤں گا جو خون بھا تو کیا دنیا و ما فیہا کی قیمت سے بہتر ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو میں وہ حدیث صرف اس کو سناؤں گا۔“

مدعی نے کہا: ”آقا! میں نے رضائے الہی اور آپ کی وساطت کی وجہ سے اسے معاف کیا ہے، آپ حدیث بیان فرمائیں۔“ (۱)

اے حداد الانور درج ص ۲۳۔

نوٹ: علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے مذکورہ حدیث اس مقام پر درج نہیں فرمائی اور باب مجرمات رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، ہم نے اس باب میں مذکورہ حدیث کو کافی تلاش کیا تکنیں پہنچیں وہ حدیث اس باب میں نہیں مل سکی اس کے لئے ہم اپنے قارئین سے مددوت خواہ ہیں۔

جائے گا تو پھر ندائے قدرت بلند ہو گی کہ اب اتنی ہی تعداد میں ان علمائے شیعہ کو نورانی حلے دیئے جائیں جتنی تعداد میں ان کے شاگرد لے چکے ہیں، جب اس تعداد میں پوشائیں انہیں مل جائیں گی تو پھر حکم پروردگار ہو گا انہیں اس سے بھی دو گنا پوشائیں دی جائیں۔

پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس عورت سے فرمایا: ”متوجہ رہو ان نورانی پوشائوں کی ایک تار اس تمام دنیا سے لاکھوں درجہ بیڑ ہے، پوری دنیا کی نعمتیں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتیں کیونکہ دنیا کی تمام نعمات تکلیف و غم سے والستہ ہیں۔“^(۱)

یہ ہزار درہم یا علم کا ایک دروازہ

ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لئے ہدیہ لے کر آیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کا ہدیہ قبول کیا اور فرمایا: ”اگر پسند کرو تو اس ہدیے کے بد لے میں یہ گناہ زیادہ دوں اور یہ ہزار درہم تمہیں عطا کروں یا پھر تمہارے لئے علم کا ایک دروازہ کھوں دوں اور اس کے دیلے سے ہمارے خاندان کے فلاں ناصبی و شمن پر فتح پاسکو اور اس علاقے کے ضعیف الاعقاد شیعوں کو اس کے چنگل سے نجات دے سکو۔ اگر تم نے بہتر چیز کا انتخاب کیا تو میں دونوں ہدیے تمہیں عطا کروں گا اور اگر تمہارا انتخاب درست نہ ہوا تو میں تمہیں ایک چیز دے دوں گا۔“

اس نے عرض کی: ”مولا! یہ بتائیں کہ اگر میں اس ناصبی کو مغلوب

۱۔ خارالنوار ج ۲ ص ۳۔

بدلے میں مثلہ بتانے کو اپنے لئے زحمت کیسے سمجھ سکتی ہوں، جبکہ مزدور کا کام کافی مشکل اور محنت طلب ہے اور میرا کام انتہائی آسان ہے۔ میں نے اپنے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے شیعہ علماء کو ان کے علم و ہدایت کی مقدار میں خدا کی طرف سے خلعت کرامت پہنائی جائے گی اور اس خلعت کے علاوہ ہر عالم کو دس لاکھ نورانی حلے دیے جائیں گے۔

ثم ينادي منادى ربنا عزوجل: ايهما الكافلون لايتام آل محمد الناعشوون لهم عند انقطاعهم عن اباهم الذين هم امتهنم هؤلاء تلامذتكم الذين كفلتموهם وعشتموهם فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا فيخلعون على كل واحد من اولئك الایتام على قدر ما اخذوا عنهم من العلوم حتى ان فيهم يعني في الایتام لمن يخلع عليه مائة الف خلعة.

(پھر اس وقت رب العالمین کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا: ”اے یقمان آل محمد کی کفالت و سرپرستی کرنے والو! جب وہ اپنے آباء یعنی اپنی ائمہ سے منقطع تھے اس وقت تم نے ان کی روحاں تربیت کی تھی آج وہ تمہارے زیر کفالت و تربیت افراد موجود ہیں، انہوں نے دنیا میں تم سے جس جس مقدار میں علم حاصل کیا تھا اسی مقدار میں انہیں جنت کی خلعتیں عطا کرو۔“

پھر علماء اپنے شاگردوں کو ان کے کسب علم کی مقدار میں خلعتیں عطا کریں گے اور ان شاگردوں میں ایسے شاگرد بھی ہوں گے جنہیں ایک لاکھ حلے دیئے جائیں گے) پھر ان شاگردوں کے شاگردوں کو نورانی حلے دیئے جائیں گے اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تمام شاگردوں کا سلسلہ پورا ہو

امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا: ”اگر تمہارے دو دوست ہوں ان میں سے ایک دوست مالدار ہو اور جب بھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو وہ ہر ملاقات پر تمہیں دس ہزار درہم کی تھیلی دے اور دوسرا دوست عالم ہو اور اس سے جب بھی تمہاری ملاقات ہو تو وہ تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دے جس کی وجہ سے تم اپنیں کی ایک گرد سے نجات حاصل کر سکو اور تمہیں ایسی چیز سے آشنا کرے کہ تم شیطانوں کے حیلے کو درہم برہم کر سکو اور ان کے دست فریب کو قطع کر سکو، تو بتاؤ ان دو دوستوں میں سے تم کس دوست کو زیادہ عزیز رکھو گے؟“

اس شخص نے جواب دیا: ”میں اس دوست کو زیادہ عزیز رکھوں گا جو مجھے ایسے چیزوں کی تعلیم دے جن سے میں اپنی فریب سے بچ سکوں۔“

آپ نے اس سے پھر دوسرا سوال کیا اور فرمایا: ”اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص کافروں کے پاس قید ہو اور ایک شخص نواصب اور خاندان نبوت کے دشمنوں کے استدلال کی قید میں پھنس رہا ہو وہ اسے اپنے دلائل سے گمراہ کرنا چاہتے ہوں تو ان دو قیدیوں میں سے تم کس کو آزاد کرانا بہتر سمجھتے ہو؟“

اس نے عرض کی: ”فرزند رسول! آپ خدا سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس کے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے۔“

آپ نے دعا کی اور کہا: ”خدا! اسے توفیق عطا فرم۔“

اس شخص نے کچھ دیر تامل کرنے کے بعد کہا: ”مولا! میں اس مؤمن کو جو ناصیبوں کے ہاتھوں قید ہے چھڑانا زیادہ پسند کروں گا اور اس کی چند

کرالوں اور کمزور شیعوں کو اس کے ہاتھ سے چھٹکارا دلا دوں تو کیا اس کا ثواب بیس ہزار درہم کے برابر ہو گا؟“

آپ نے فرمایا: ”اس کا ثواب پوری دنیا سے بیس ہزار گناہ بہتر ہے۔“

اس نے عرض کی: ”مولا! تو میں پھر بہتر کو چھوڑ کر کتر چیز کا انتخاب کیے کر سکتا ہوں؟ میں علم کا دروازہ کھولنے کو پسند کرتا ہوں۔“

امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا: ”تم نے صحیح چیز کا انتخاب کیا۔“

آپ نے اس کے لئے علم کا ایک دروازہ بھی کھولا اور اسے بیس ہزار درہم بھی عطا کئے۔

وہ شخص آپ کی خدمت سے روانہ ہو کر اپنے گاؤں گیا وہاں اس نے اس ناصیبی سے بخت کی اور اسے شکست فاش دی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس مباراثہ کی اطلاع ملی۔

پھر چند دنوں بعد وہی شخص امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ”دنیا میں کسی شخص نے تیری طرح کبھی نفع حاصل نہیں کیا کیونکہ تو درجہ اول میں خدا کا دوست ہے اور دوسرے درجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا دوست ہے اور تیسرے درجے میں تو الہیت اور انہے ہدی کا دوست ہے اور چوتھے درجے میں تو ملائکہ کا دوست ہے اور پانچویں درجے میں تو تمام مؤمنین کا دوست ہے اور اس روئے زمین پر بننے والے تمام مؤمن و کافر کی تعداد سے ہزار گناہ بہتر تجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تجھے وہ ثواب مبارک ہو۔“ (۱)

۱۔ احتجاج طرسی ص ۶۔ متن حدیث نقش از خدادالأنوار ج ۲۔

وجہات ہیں :

۱۔ اگر میں مؤمن کو نواصب کے دام ضلالت سے چھکارا دلانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دوزخ کا ایدھن بننے سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو گا۔

۲۔ اس کے برعکس اگر میں کسی مؤمن کو کافروں کی قید سے نجات دلاتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ اپنی طبعی عمر پوری کر سکے گا۔

۳۔ اگر بالفرض کفار اپنے قیدی کو قتل بھی کر دیں تو وہ شادت کی وجہ سے جنت میں جائے گا لیکن اگر کوئی مؤمن نواصب کے دام پھنس گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

آپ نے فرمایا: ”یہت خوب اللہ تعالیٰ تیرے باب پر رحم کرے جس نے تیری اچھی تربیت کی ہے اور تو نے میرے مانی الصمیر کی صحیح ترجمانی کی ہے اور تو نے پیغمبر اسلامؐ کی تعلیمات سے سر مو انحراف نہیں کیا۔“ (۱)

﴿اولوالعزّم نبی خدمت استاد میں﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی بہت سی نوازشات فرمائیں، انہیں شرف تکلم محسناً، انہیں صاحب تورات بنایا اور انہیں عصا، یہ پھضا اور طوفان و خون وغیرہ کے مجذرات عطا فرمائے، ان کو دریائے قلزم سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لفکر سمیت غرق کیا۔

مسلسل نوازشات کی وجہ سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

۱۔ حوار الانوار ج ۲ ص ۹۔

دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے بڑا صاحب علم کوئی خلق نہیں فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے جریئل علیہ السلام سے فرمایا: ”قبل اس کے کہ موسیٰ اس خود پسندی کی وجہ سے ہلاک ہوں، جا کر ان کی مدد کر اور ان سے جا کر کہ کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جسے ہم نے علم لد دئی عطا کیا ہے چنانچہ تم جا کر اس سے علم حاصل کرو۔“

حضرت جرج نبیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً متذہب ہو گئے کہ یہ سب کچھ اس خود پسندی کی وجہ سے ہے جو چند لمحات قبل میرے اندر پیدا ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اس بندہ خدا کی ملاش میں نکلے، آخر کار دو سمندروں کے مقام اتصال پر ان کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”فوجد عبدالا من عبادنا اتبیه رحمة من عندنا وعلمته من لدنا علماً“ (سورہ کف آیت ۶۵) موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور جسے ہم نے اپنی جانب سے علم تعلیم فرمایا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی: ”کیا آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ علم کی تعلیم دیں گے؟“

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”انک لئن تستطيع معی صبراً۔ (آیت ۶۷) (تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے) کیونکہ مجھے ان امور کا حکم ہے جنہیں تم برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ نے تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے مجھے اس کے اٹھانے کی قوت نہیں ہے۔“

جارہے تھے کہ راستے میں حضرت نے ایک پچھے کو قتل کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے انہیں غصہ آیا اور حضرت کا گریبان کپڑہ کر فرمایا: ”اقتلت نفس از کیہ بغیر نفس لقد جنت شینا نکرا۔ (آیت ۲۷) (آپ نے ایک محترم جان کو کسی قصاص کے بغیر قتل کر دیا یقیناً آپ نے بر اکام کیا۔)

حضرت حضرت نے فرمایا: ”خدا تعالیٰ کاموں کا فیصلہ انہی عقول سے کرتا مناسب نہیں ہے، اس کے جائے عقول کو امر خدا کے تابع کرنا چاہئے۔ تم جو کچھ بھی دیکھو اسے کمال صبر و تسلیم سے برداشت کرو، میں نے تو تمہیں پلے ہی بتادیا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر میں پھر اعتراض کروں تو تمہیں مجھ سے جدا ہونے کا اختیار ہو گا۔“

چنانچہ پھر دونوں بزرگوار چل پڑے۔ ناصرہ نامی ایک بستی میں آئے (نصاری اسی گاؤں کی طرف منسوب ہیں) انہیں اس وقت خوب بھوک لگی ہوئی تھی اور انہوں نے بستی والوں سے روٹی مانگی تو کسی نے انہیں مہمان بنانے پر رضامندی کا اظہار نہ کیا۔

حضرت حضرت نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو میڑھی ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب تھی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملا یا اس دیوار کو سیدھا کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر آپ ان سے اجرت لے لیتے تو بھر تھا۔“

موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”میں صبر کروں گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”خدا کے کاموں میں قیاس کا داخل نہیں ہے۔ وکیف تصریح علی مالم تحاط بہ خبرا۔ (آیت ۶۸) (جس چیز کا تم احاطہ علمی نہیں رکھتے تم اس پر صبر کیے کرو گے؟) موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔“

حضرت حضرت نے لفظ انشاء اللہ کی وجہ سے انہیں اپنا شاگرد بنانے پر رضامندی کا اظہار کیا اور فرمایا: ”میری شرط تعلیم یہ ہے کہ تم میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرو گے یہاں تک میں خود تمہیں اس کا سبب بتاؤں۔ فان اتبعتنی فلا تسنلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرأ۔ (آیت ۷۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استاد کی شرط قبول کر لی۔ چنانچہ استاد و شاگرد دونوں کشتمی پر سوار ہوئے، حضرت حضرت نے کشتمی سوراخ کیا اور اسے عیب دار بنا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کام کی توقع نہ تھی وہ تاراض ہو کر کہنے لگے: ”آخر قهها لنفرق اهلها لقد جنت شینا امروا۔ (آپ نے سوراخ کر دیا تاکہ کشتمی کے سوراخ غرق ہو جائیں، بے شک آپ نے یہ عجیب کام کیا ہے)۔

حضرت حضرت نے کہا: ”کیا میں نے پلے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معدرات کی، پھر کشتمی سے اتر کر دونوں

عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف اهلها حالا بعد حال كيف يطمئن اليها.
 مجھے اس پر تجھ بھے جسے موت کا یقین ہے وہ خوش کیسے ہوتا ہے؟
 مجھے اس پر تجھ بھے تقدیر کا یقین ہے، مگر وہ غمگین کیوں
 ہوتا ہے؟

مجھے اس پر تجھ بھے جو قیامت کے دن مبسوط ہونے کا یقین رکھتا
 ہے وہ ظلم کیسے کرتا ہے؟
 مجھے اس پر تجھ بھے جو لمحہ بہ لمحہ دنیا کی دگر گونی کو دیکھتا ہے وہ اس پر
 مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟

حضرت خضر نے فرمایا کہ ان چوں کا باپ نیک انسان تھا اور ان سنتیم
 چوں اور ان کے نیک باپ کے درمیان ستر پیشوں کا فاصلہ ہے اس کی نیکی کی
 وجہ سے یہ تختی ان چوں کے لئے محفوظ کی گئی، اس لئے تیرے رب کا ارادہ
 ہوا کہ پچھے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود برآمد کریں۔

یہ تمام کام جو میں نے کئے تھے اپنی جانب سے نہیں کئے تھے اور انہی
 کاموں پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔

علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ درج بالا واقعہ لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں
 کہ اس ولقعت سے تعلیم کے بہت سے مسائل کا استفادہ کیا جاسکتا ہے:
 ۱۔ شاگرد کو استاد کا پیر و ہوتا چاہئے۔

۲۔ علم و دانش کے حصول کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔

۳۔ استاد سے کمال ادب کے ساتھ تعلیم کی درخواست کرنی چاہئے۔
 موئی علیہ السلام اولو العزم نبی ہونے کے باوجود حضر علیہ السلام کے

حضرت خضر نے کہا: ”هذا فراق بینی و بینک سائبیک بتاؤیل مالم
 تسطع عليه صبراً۔ (آیت ۸۷) (اب میں اور تم جدا ہیں اور جن چیزوں پر
 آپ صبر نہیں کر سکے میں آپ کو ان کے متعلق بتاتا ہوں)۔

جس کشتی میں سوراخ کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی چند
 مسائیں کی تھیں جو سمندر میں کشتی چلا کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ علاقے
 کے بادشاہ کو جگ درپیش ہے، وہ کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے، میں نے اسے عیب
 دار بنا دیا، جب وہ کشتی کی یہ حالت دیکھے گا تو کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا اور کشتی
 کے مالک اس کی مرمت کر کے اپنارزق بدستور حاصل کرتے رہیں گے۔

جس پچھے کوئی نے قتل کیا تھا اس پچھے کے والدین مؤمن تھے اور اگر
 یہ لڑکا زندہ رہتا تو والدین کو بھی کفر میں لے جاتا۔ اس لئے مجھے خدا کا حکم ہوا
 کہ میں اسے قتل کر دوں تاکہ اس کے والدین ایمان کی سلامتی لے کر دنیا سے
 رخصت ہوں۔

جو دیوار ہم نے مفت بنائی تھی وہ دو سنتیم چوں کی تھی اس کے نیچے ان
 کے لئے خزانہ چھپا ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کر لے جاتے
 اسی لئے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب پچھے جوان ہوں اور اس دیوار
 کو گراہیں تو انہیں ان کا خزانہ مل جائے۔“

بعض روایات میں ہے کہ دیوار کے نیچے سونے چاندی کا کوئی خزانہ
 نہیں تھا دیوار کے نیچے ایک سونے کی لوح تھی جس پر یہ جملے تحریر تھے:

”عجبت لمن ایقن بالموت فكيف يفرح ، عجبت لمن ایقن
 بالقدر فكيف يحزن ، عجبت لمن ایقن بالبعث انه حق فكيف يظلم ،

جاہل اگرچہ یافت تقدم مؤخر است
 عالم اگرچہ گشت مؤخر مقدم است
 جاہل بروز فتنہ رہ خانہ گم کند
 عالم چراغ جامعہ و چشم عالم است
 اس کا علم و دانش اور تقویٰ مسلم ہے وہ جہاں بھی قدم رکھے اس کا
 قدم پادر کرت ہے۔
 مال و دولت کسی کے لئے کمال و فخر کا سبب نہیں ہے۔ علم کا مقام ہر
 مقام سے بلند و بالا ہے۔
 جاہل اتفاق سے اگر آگے بھی ہو جائے تو بھی وہ درحقیقت مؤخر ہے
 اور اگر کبھی عالم مؤخر بھی ہو جائے تو بھی وہی مقدم ہے۔
 آزادی کے وقت جاہل اپنے ہی گھر کا دروازہ گم کر بیٹھتا ہے اور عالم
 معاشرے کا چراغ اور جہاں کے لئے نہیں ہے۔

طلباً محنت کے ساتھ تو سل بھی کریں

آقائے میر سعید محمد بیہقی عصر حاضر کے علماء میں سے ہیں۔ وہ دو
 واسطوں سے شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے متعلق
 میان کرتے ہیں کہ اس کا بیان ہے کہ جب میں مقدمات و سطوح سے فارغ ہوا
 تو تعلیم کی تکمیل کے لئے نجف اشرف گیا، حوزہ علیہ میں داخلہ لیا اور شیخ
 انصاری کے حلقة درس میں شامل ہو گیا لیکن شیخ کی تقریر میرے پلے نہ پڑتی
 تھی اور اس صورت حال کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے قرآن مجید

- پاس خود چل کر علم حاصل کرنے گئے تھے۔
- ۳۔ استاد کے سامنے شاگرد یہ نہ کہے کہ وہ اسے اپنا تمام علم تعلیم کر دے جیسا کہ موئی نے عرض کی تھی "مماعلمت" جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا اس میں سے کچھ علم کی مجھے تعلیم دیں۔
- ۴۔ اس داستان سے یہ امر بھی مستحب ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد کی تربیت و تادیب کرنی چاہئے۔
- ۵۔ تادیب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ استاد شاگرد سے وعدہ لے اور شاگرد وعدہ کرے۔
- ۶۔ اگر کوئی اپنے استاد سے زیادہ مستفید ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ استاد کی ہربات پر اعتراض نہ کرے اور جب تک استاد اسے خود نہ بتائے، جانتے کے لئے اصرار نہ کرے۔
- ۷۔ اگر شاگرد سے کبھی کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اسے کھلے دل سے مغدرت کر لینی چاہئے:
- "لَا تَوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي
 عَسْرًا" (سورہ کاف آیت ۳۷) (اس مخالفت کی وجہ سے میرا موافق نہ کریں، اور مجھے مشقت میں مت ڈالیں)۔
- آن را کہ علم و دانش و تقویٰ مسلم است
 هر جا قدم زند قدمش خیر مقدم است
 کس را بمال نیست برایش کمال و فخر
 از هر مقام و مرتبہ ای علم اعظم است

جب ہم ایک بازار میں گئے تو میں نے اس طالب علم کو دیکھا کہ اس نے ایک حسین لڑکے کے چہرے پر نظریں گاڑی ہوئی تھیں، آخر کار وہ مجھ سے جدا ہوا کہ اس لڑکے کے پاس گیا اور کچھ دیر تک اس سے بھی مذاق کرتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا: ”ایک دینی طالب علم کو یہ حرکات زیب نہیں دیتیں۔“

ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ زمین پر کاغذ کا ایک ورق پڑا ہوا دیکھا، میں نے اس نیت سے اخیا کہ ممکن ہے اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو تو اسے کسی محفوظ مقام پر دفن کر دوں گا۔

جب میں نے ورق پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ یہ کسی یوسیدہ کتاب کا ایک ورق ہے اس کی ابتداء تو موجودہ تھی البتہ اس صفحہ پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی:

”اس نے کہا میں تیرا ایمانی بھائی اور دینی معاون ہوں، لیکن میں نے جو کچھ تیرا عمل مشاہدہ کیا ہے میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتا اور اس کے لئے تیرا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے اور تو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ایک جاہل اور جوان لڑکے سے مذاق کرتا ہے۔

تجھے اپنی قدرہ قیمت کا علم ہونا چاہئے، طالب علم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا مقام بلند کیا ہے، تو اگر اپنی منزلت کو پچھان لے تو تو صدقیقین کی جماعت کا فرد ہے کیونکہ تو کہتا ہے: ”حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ

کے ختم بھی پڑھے مگر چند اس فائدہ حاصل نہ ہوا۔ آخر کار میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے متصل ہوا۔

ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ مولائے کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے میرے کان میں ”بسم اللہ الرحمن الرحيم“ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح جب میں درس میں حاضر ہوا تو آہستہ آہستہ مجھے درس کی سمجھ آئے گلی اور چند دنوں بعد میں سوال کرنے کے قابل ہو گیا۔

ایک دن میں نے اپنے استاد پر بہت زیادہ سوال کئے، جب درس ختم ہوا تو میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا: ”جس ذات نے ”بسم اللہ الرحمن الرحيم“ تیرے کان میں کہی ہے، اسی ذات نے ”ولا الصالین“ تک میرے کان میں پوری سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔“

میں یہ سن کر بہت حیران ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ شیخ صاحب کرامت ہیں کیونکہ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ (۱)

﴿ دینی طلباء کو باکردار ہونا چاہئے ﴾

علام ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان صاحبِ کنز الفوائد ایک مشور شیعہ عالم گزرے ہیں، وہ رقم طراز ہیں کہ میں ماہ ربیع الاول ۲۲۱ھ میں ایک کام کی غرض سے قاہرہ جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جوان میرا ہم سفر ہوا جو شکل و صورت سے دینی طالب علم نظر آتا تھا۔

۱۔ زندگی و شخصیت شیخ مرتضی ص ۱۰۳۔

مرید اپنے شیخ کی پلیٹ اٹھا کر غصے کے عالم میں بیوی کے پاس آیا اور کہا: ”تجھے شرم نہیں آتی تو نے میرے شیخ کی پلیٹ میں بوئیاں کیوں نہیں ڈالیں؟“

عورت نے بس کر کہا: ”بوئیاں موجود ہیں لیکن وہ چاولوں میں چپی ہوئی ہیں، تمہیں اگر اعتبار نہیں ہے تو تم خود ہی دیکھ لو۔“

جب شوہر نے دیکھا تو اتنی چاولوں کے اندر بوئیاں موجود تھیں۔

بیوی نے احمد شوہر سے کہا: ”بندہ خدا! جس شخص کو چاولوں کے نیچے بوئیاں نظر نہیں آتیں اسے ابھرہ سے مسجد الحرام میں کتابیے نظر آگیا؟“

شیخ ناراض ہو کر اٹھ کر چلا گیا اور شوہر نے بیوی کا نہ ہب اختیار

کر لیا۔ (۱)

ایک اور نمونہ

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے ہزاروں افراد نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق فائدہ حاصل کیا ان میں ایک نمایاں نام محمد بن مسلم کا ہے۔ محمد بن مسلم صادقین کے بزرگ اور باؤثوق اصحاب میں سے تھے اور فقیہ امامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ روایت جو سند صحیح کے ساتھ ان تک پہنچے وہ صحیح ہے۔ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے تیس ہزار اور امام صادق علیہ السلام سے سولہ ہزار احادیث اخذ کیں۔ (۲)

۱۔ انوار نعمانیہ ص ۲۳۵۔

۲۔ اکنہ لفظ طحان۔

سادہ لوح لوگوں کی نظر میں شیخ کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔

شیخ کے انہی ”روشن ضمیر“ مریدوں میں سے ایک مرید کی بیوی شیعہ تھی، مرید جب گھر آیا تو بیوی سے کہا: ”تو میرے شیخ کی کلامات کو تسلیم نہیں کرتی جبکہ شیخ ولایت کے آخری درجہ پر فائز ہیں۔“

بیوی نے پوچھا: ”تم نے شیخ کی کونسی کرامت مشاہدہ کی؟“

شوہر نے اسے نماز کا قصہ سنایا تو بیوی نے کہا: ”خدار! مجھے معاف کر دیں میں شیخ کیلئے اپنے باتھوں سے کھانا تیار کر کے شیخ کو دعوت دیں میں شیخ کیلئے اپنے باتھوں سے کھانا تیار کر کے انہیں کھلانا چاہتی ہوں۔“

شوہر اپنی بیوی کی بات سن خوش ہوا اور سیدھا شیخ کے پاس آیا اور انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی جو شیخ نے بلا تردید قبول فرمائی۔

عورت نے شیخ اور ان کے ساتھ آنے والے ”روشن ضمیروں“ کے لئے پلااؤ تیار کیا۔

شام ہوئی، شیخ صاحب مریدوں سمیت تشریف لائے، بیوی نے اپنے شوہر کو پلیٹ دیں کہ یہ مریدوں کے سامنے رکھو ان تمام پلیٹوں پر بوئیاں اور گوشت ظاہر تھا اور پھر اس عورت نے شیخ کے لئے پلیٹ روائے کی جو کہ کچڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔

شیخ نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو انہیں خالی چاول نظر آئے، ان پر یوئی نظر نہ آئی، ناراض ہو کر مرید سے فرمایا: ”تمہاری بیوی شیعہ ہے، اس کے دل میں ہمارا کوئی احترام نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ باقی تمام پلیٹوں میں بوئیاں موجود ہیں لیکن میرے حصے کی پلیٹ میں یوئی نہیں ہے؟“

شاگردوں نے کہا: "ہمیں معلوم نہیں ہے۔"
ابو حنفیہ نے کہا: "لیکن مجھے معلوم ہے۔"
میں نے اس کے یہ الفاظ سے تو میں زور سے کھانے لگا، ابو حنفیہ نے
مجھے دیکھا تو دعا سی لبھے میں کہا: "اللهم غفرادعنا نعیش" (خدا! معاف کرنا
اور ہمیں بھی زندہ رہنے دے)۔
اس کے اس کنایے سے میں سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدار!
میرے راز کو فاش مت کرو۔ (۱)

عالم حقيقی کا مقام

سید علی شوستری اعلیٰ اللہ مقامہ اپنے دور کے جلیل القدر عالم و عارف
تھے۔ ان کے فرزند کا بیان ہے کہ ۱۲۶۰ ہجری میں نجف اشرف میں وبا نے
شدت اختیار کری تھی چنانچہ میرے والد بھی اس مرض میں بیٹلا ہو گئے تھے۔
والد محترم کی طبیعت ایک شب انتہائی ناساز ہوئی تو مجھے اندریشہ ہوا کہ
شاید ان کی رخصت کا وقت آن پہنچا ہے۔

میں نے دل میں سوچا کہ بہتر ہے کہ میں شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ
کو والد کی علالت کی خبر دوں، ایسا نہ ہو کہ والد ناراض ہوں اور فرمائیں کہ تم
نے شیخ انصاری کو میری بیماری کی اطلاع کیوں نہ دی؟
چنانچہ میں نے یہ سوچ کر لیپ روشن کیا اور ابھی انحصاری چاہتا تھا کہ
میرے والد نے فرمایا: "یہاں! کمال جانا چاہتے ہو؟"

۱۔ مناقب شریعت آشوب ج ۳ ص ۲۰۰۔

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنے مکان کی چھت پر لینا تھا
کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا: "کون؟"
میری کنیز نے کہا: "میں آپ کی کنیز ہوں، دروازہ کھولیں۔"
میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔
نووارد عورت نے کہا: "میری بیشی فوت ہو گئی ہے اور اسکے شکم میں
چہ ابھی تک زندہ ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہماری تکلیف شرعی کیا ہے؟"
میں نے کہا: "ایک مرتبہ یہی سوال امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا
گیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میت کے شکم کو چیر کرچہ نکال لینا چاہئے، تو بھی
ایسا ہی کر۔"

پھر میں نے یکدم کہا: "میں تو یہاں دور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر
رہا ہوں تجھے میرے متعلق کس نے راہنمائی کی؟"
عورت نے کہا: "میں آپ سے پہلے ابو حنفیہ صاحب الرائے کے پاس
گئی تھی اور میں نے اس سے یہ مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس بارے میں
کچھ معلوم نہیں ہے اور اس نے مجھے آپ کے متعلق راہ نمای کی ہے اور کہا ہے
کہ تو محمد بن مسلم کے پاس جا کر اس سے مسئلہ پوچھ اور وہ جو بھی تجھے جواب
دیں وہ آگر مجھے بتا۔"

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عورت کو خدا حافظ کہا۔ دوسرا صحیح
جب میں مسجد میں گیا تو وہاں ابو حنفیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہہ
رہے تھے: "کیا تمہیں اس مسئلے کا حکم شرعی معلوم ہے کہ اگر کسی حاملہ کے
پیٹ میں چہ ہو اور حاملہ مر جائے تو اس کے لئے شرعی وظیفہ کیا ہے؟"

بعد ازاں کچھ دیر پہلے کر شخ رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن درس کے اختتام پر انہوں نے فرمایا: ”میں نے سنا ہے کہ سید علی شوستری یہمار ہیں، جو ان کی عیادت کا خواہش مند ہو وہ میرے ساتھ چلے۔“

شیخ جب دوسرے دن طلباء کو لے کر ہمارے مکان میں مزاج پر سی کے لئے آئے تو اس طرح سے سوال کرنے لگے جیسے پہلی بار عیادت کے لئے آئے ہوں۔

میں نے چلا کہ عرض کروں کہ استاد محترم! آپ کل رات تو یہاں تشریف لائے تھے۔ اپاںک شیخ نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو میں چپ ہو گیا۔ (۱)

چند روایات

عن ابی عبد اللہ قال: قال رسول اللہ یجئی الرجل يوم القيمة وله من الحسنات كالسحاب الرکام او كالجال الرواسی فيقول يارب انى لى هذا ولم اعملها فيقول: هذا علمك الذى علمته الناس يعمل به بعدك.

وقال امير المؤمنین: المؤمن العالم اعظم اجر امن الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ و اذا مات ثلم فی الاسلام ثلمة لا يسدھاشیء.
”حدائق النور ج ۲ ص ۷۱۔ نقل از بصائر الدرجات“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جب رسول خدا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اس کے نیک اعمال تھے درستہ بادل

۱۔ زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری ص ۹۳۔

میں نے عرض کی: ”میں شیخ انصاری کو آپ کی عالت کی اطلاع دینا چاہتا ہوں۔“

یہ سن کر میرے والد نے کہا: ”نمیں تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شیخ اس وقت یہاں آنے والے ہیں۔“

چند لمحات کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو شیخ انصاری موجود تھے، مجھ سے والد کی طبیعت کا پوچھا تو میں نے عرض کی: ”اس وقت تو وہ سخت یہمار ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔“

انہوں نے کہا: ”مت گھبراو، تمہارے والد جلد تندrst ہو جائیں گے۔“

انہوں نے میرے والد کی مزاج پر سی کی تو میرے والد نے کہا: ”میں چند لمحات کا مہمان ہوں۔“

شیخ انصاری نے کہا: ”آپ مضطرب نہ ہوں، آپ بہت جلد رو بحث ہو جائیں گے۔“

میرے والد نے کہا: ”مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں تندrst ہو جاؤں گا؟“

شیخ نے فرمایا: ”میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ تم میرے بعد زندہ رہو اور میری نماز جنازہ تم ہی پڑھو۔“

میرے والد نے کہا: ”مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟“
شیخ نے فرمایا: ”بس ایک دن عالم وجود میں میں نے یہ درخواست کی تھی اور میری درخواست قبول ہو چکی ہے۔“

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”جس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو وہ ناجی ہے اور جس کا عمل اس کے قول کے موافق نہ ہو تو وہ علم (یا ایمان) اس کے پاس بطور امانت ہے۔“ (وہ اس سے لے لیا جائے گا)

قال سليم بن قيس الہلائی سمعت علیاً : يقول قال رسول الله منهومان لا يشبعان منهوم في الدنيا لا يشبع فيها ومنهوم في العلم لا يشبع منه، فمن اقتصر من الدنيا على ما احل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك الايتوب ويراجع، ومن اخذ العلم من اهله وعمل بها نجا ومن اراد به الدنيا هلك وهو حظه، العلماء عالمان: عالم عمل بعلمه فهو ناج وعالم تارك لعلمه فقد هلك وان اهل النار يتсадون من نتن ربع العالم عن التارك لعلمه وان اشد اهل النار ندامة وحسرة. رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له فاطع الله فدخل الجنة وادخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه هواه وعصيانه لله انما هو اثنان اتباع الهوى وطول الامر فاما اتباع الهوى فيقصد عن الحق واما طول الامر فينسى الآخرة.

”خار الانوار ج ۲ ص ۳۶“

سلیم بن قیس ہلائی (العامری) کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وَهُرِيصٌ كُبْحٌ سِيرٌ نَّمِيزٌ“ ہوتے:

۱۔ دنیا کا حریص اپنی زندگی میں کبھی سیر نہیں ہوتا۔

۲۔ علم و دانش کا حریص، جو کبھی علم و دانش سے سیر نہیں ہوتا۔

جو شخص دنیا میں رزق حلال پر قیامت کرے گا وہ سلامتی پائے گا اور جو حرام

کی طرح یا بلند و بالا پہلوؤں کی طرح نظر آئیں گے، وہ عرض کرے گا کہ میرے پاس اتنے سارے اعمال کس طرح سے آگئے جکہ میں نے اتنے عمل تو نہیں کئے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ تیرا وہ علم ہے جو تو نے لوگوں کو تعلیم کیا جس پر تیرے بعد عمل ہوتا رہا۔

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”مَوْمَنْ عَالَمْ كَا اجْرَ اللَّهِ كِي رَاهِ مِنْ جَهَادِ كَرْنَے وَالْرَّوْزَهِ دَارَ أَوْ شَبَّ زَنْدَهِ دَارَ سَيْرَ زِيَادَهِ ہے۔“

جب عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسلام میں ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے جسے قیامت تک کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔“

عن النبیؐ العلم علمنا: علم اللسان فذلك حجة على ابن ادم و علم في القلب كذلك العلم النافع.

”خار الانوار ج ۲ ص ۲۶“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”علم و قسم کا ہے ایک وہ علم ہے جو صرف زبان تک ہوتا ہے اور یہ علم انسان کے خلاف جھٹ ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو قلب میں ہوتا ہے اور یہ علم فرعِ خیش ہے۔“

عن المفضل قال قلت لابی عبد الله بْمَ يَعْرُفُ النَّاجِي؟ فقال من كان فعله لقوله موافقاً فهو ناجٌ ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فانما ذلك مستودع.

”خار الانوار ج ۲ ص ۳۳“

مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ”نجات پانے والے کی پہچان کیسے ہو؟“

آخرہ بدینیا ، وبجاهل لا یتکبر عن طلب العلم ، فاذا کتم العالم علمه ، و بخل الغنی بما له ، وباع الفقیر اخرته بدینیا واستکبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا الی ورائها القهقری فلا تغرنکم کثرة المساجد و اجساد قوم مختلفة.

قيل يا امير المؤمنین کیف العیش فی ذلك الزمان؟ فقال خالطوهم بالبرانیة یعنی فی الظاهر و خالفوهم فی الباطن ، للمرء ما اكتسب ومع من احب ، انتظروا مع ذلك الفرج من الله عزوجل.

"حدائق النوارج ص ٤٧"

زارۃ بن اعین کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: "دین چار چیزوں سے اپنی جگہ پر قائم و استوار رہتا ہے:
 ۱۔ ایسا عالم جو بیان کرنے والا ہو اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔
 ۲۔ ایسا دولت مند جو متدين افراد پر اپنی اضافی دولت خرچ کرنے سے دربغ نہ کرتا ہو۔

۳۔ ایسا غریب جو دنیا کے بدالے اپنی آخرت نہ فروخت کرتا ہو۔
 ۴۔ ایسا جاہل جو علم کے حصول سے تکبر نہ کرتا ہو۔

جب عالم اپنے علم کو چھپائے اور دولت مند اپنی دولت کے لئے کنجوں کرے اور غریب اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنے لگے اور جاہل طلب علم سے تکبر کرنے لگے تو دنیا میں پھر دور جاہلیت لوٹ آتا ہے۔

اس زمانے کی زیادہ مسجدیں اور مختلف قوموں کے اجسام تمیس و ہوکے میں نہ

طریقے سے دنیا حاصل کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا سوائے اس کے کہ توبہ کرے اور حق کی طرف رجوع کرے۔
 اور جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اس نے نجات پائی اور جس نے اہل علم کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنایا وہ ہلاک ہوا اور اس کا حصہ بھی علم سے متاع دنیا ہے۔
 علماء دو طرح کے ہیں:

۱۔ وہ عالم جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا وہ ناجی ہے۔
 ۲۔ وہ عالم جس نے علم کے مطابق عمل نہ کیا تو وہ ہلاک ہونے والا ہے اور اہل دوزخ بد عمل عالم کی بدبو سے اذیت محسوس کریں گے۔
 دوزخیوں میں سب سے زیادہ حسرت و ندامت اس شخص کے حصے میں آئے گی جس نے کسی شخص کو اللہ کی طرف بلایا اور اس شخص نے اطاعت خدا جلالی تو اطاعت کرنے والا جنت میں چلا گیا اور دعوت دینے والا اپنے علم کو چھوڑنے اور اپنی خواہشات کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنم میں چلا جائے گا۔
 ترک عمل کے دو بجاوی اسباب ہیں:

۱۔ خواہشات نفس کی پیروی۔
 ۲۔ طول آرزو۔
 خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روکتی ہے اور طول آرزو آخرت کی فراموشی کا سبب ہے۔"

عن زراۃ عن ابی جعفر قال: قال امیر المؤمنین قوام الدین باربعہ، عالم ناطق مستعمل له، وبغنى لا يدخل بفضلہ علی اهل دین الله ، وبفقیر لا يبع

ڈالیں۔

آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا: "امیر المؤمنین! اس زمانے میں ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں؟"

آپ علیہ السلام نے فرمایا: "ان کے ساتھ ظاہری طور پر معاشرت قائم رکھو اور باطن میں ان کی مخالفت کرو۔ ہر شخص کی زندگی کا شروع ہی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے اور انسان اس کے ساتھ مشور ہو گا جس سے وہ محبت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کشائش کی امید رکھو۔"

عن علی بن الحسین علیہ السلام قال: لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطبوه ولو بسفک المھج و خوض البحج ان الله تبارک و تعالى او حى الى دانیال: ان امقت عبیدی العجاهل المستخف لحق اهل العلم التارک للقاداء بهم و ان احباب عبیدی الى التقى الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل للحكماء.

"اصول کافی ج ۲ ص ۳۵"

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: "اگر لوگوں کو علم کی فضیلت کا پتا چل جائے تو وہ اسے ضرور طلب کریں خواہ اس کے لئے انہیں خون کیوں نہ بیہاں پڑے اور خواہ امواج ملاطم کو عبور کیوں نہ کرنا پڑے۔"

الله تبارک و تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کو وحی فرمائی: "میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص وہ جاہل ہے جو اہل علم کے حق کو خفیف سمجھتا ہے اور جوان کی اقتداء کو ترک کرتا ہے اور میرے نزدیک میرا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو ثواب عظیم کا طلبگار ہو اور علماء سے والستہ رہتا ہو اور حليم صفت افراد کی پیروی کرتا

اور دانش مندوں کی باتوں کو قبول کرنے والا ہو۔"

قال علی الرضا علیہ السلام یقال للعبد يوم القيمة نعم الرجل انت كنت همتک ذات نفسك و كفيت الناس مؤنتك فادخل النجاة الا ان الفقيه من افاض على الناس خيره و انقدهم من اعدائهم و وزلهم نعم جنان الله وحصل لهم رضوان الله تعالى ويقال للفقيه يا لها الكافل لا ياتكم الى محمد الهدى ضففاء محببيهم و مواليهم قف حتى تشفع لمن اخذ عنك او تعلم منك فيقف فيدخل الجنۃ معه فناما و فناما حتى قال عشرة وهم الذين اخذوا عنه علومه واخذوا عنمن اخذ عنه وعمن اخذ عنمن اخذ عنه الى يوم القيمة فانظروا کم فرق بين المترفين.

بيان: "الفنان" بالهمزة و كسر الفاء الجماعة من الناس و فسر في خطبة امير المؤمنین علیہ السلام فی یوم الغدیر بمأة الف.

"ختار الانوار ج ۲ ص ۶"

امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: "قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا کہ تو اچھا شخص تھا اور تو نے ہمیشہ اپنی ذات کو مد نظر رکھا تھا اور تو نے لوگوں کو زحمت میں نہیں ڈالا تھا لہذا جنت میں چلا جا۔"

اگاہ رہو کہ فقیہ وہ ہے جو لوگوں پر اپنے خیر و نیکی کا فیضان کرے اور انہیں ان کے دینی و شمنوں سے چائے اور جنت کی نعمات ان کے لئے افزول کرے اور جو لوگوں کے لئے رضاۓ خداوندی کی تحصیل کا ذریعہ ہے تو قیامت کے دن ایسے فقیہ سے کہا جائے گا: "اے آل محمد کے تیموریں کی پروردش کرنے والے! اور ان کے کمزور محبوں اور موالیوں کو ہدایت کرنے والے، تو تمہر جا اور تو ان لوگوں

کھڑے ہو کر ہمارے کمزور شیعوں کا دفاع کرتے ہیں اور ہمارے شیعوں کو
ابليس اور اس کے پیروکار نواصب کے چملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اگاہ ہو جاؤ! ہمارا جو بھی شیعہ اس منصب کو سنبھالے تو وہ روم و ترک و خزر
جیسی کافر اقوام سے جاد کرنے والے مجاهد سے لاکھوں گناہتر ہے کیونکہ یہ ان
کے دین کا دفاع کرتا ہے اور وہ مؤمنین کے بدنوں کا دفاع کرتے ہیں۔“

کی شفاقت کر جنوں نے تجھ سے استفادہ کیا اور تجھ سے تعلیم حاصل کی۔ فقیہ
عرصہ محشر میں رک جائے گا حتیٰ کہ اس کے ساتھ ”فnam“ اور ”فثam“ اور
”فam“ حتیٰ کہ دس فnam جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہی لوگ ہوں گے
جنوں نے اس سے استفادہ کیا ہو گایا اس کے شاگردوں سے استفادہ کیا ہو گایا
اس کے شاگردوں کے شاگردوں سے استفادہ کیا ہو گا اور ان میں قیامت تک
کے لوگ شامل ہوں گے جنوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے استفادہ
کیا ہو گا۔ دیکھو! عابد اور عالم کی منزلت میں کتنا فرق ہے۔“

بیان : لفظ ”فnam“ ف کی زیر اور ہمزہ سے پڑھا جاتا ہے اور اس سے مراد
انسانوں کی ایک جماعت ہے۔ مقام غدیر خم میں ولایت علیؑ کے لئے رسالت
ماما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا جس کے سامنے کی تعداد ”فnam“
بیان کی گئی تو اس مقام پر فnam سے ایک لاکھ افراد مراد ہیں۔

عن ابی محمد العسكری علیہ السلام قال: قال جعفر بن محمد الصادق
علیہ السلام علماء شیعتنا یوابطون بالشفرالذی یلی ابليس و عفاریته،
یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا ، و عن ان یتسلط عليهم ابليس
و شیعه النواصب . الاقمن انتصب لذلک من شیعتنا ، کان افضل ممن
جادہ الروم و الترك و الخزر الف الف مرہ لانہ یدفع عن دین محبینا و
ذلک یدفع عن ابدانهم.

”بخار الانوار ج ۲ ص ۵“

امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے
کہ آپ نے فرمایا: ”ہمارے شیعہ علماء ابليس اور اس کے چملوں کی سرحد پر

MAMODALY ALIDAY SONDARJEE

Marchandises Generales

Quincailleries

TSAPALALANA-ANTANANARIVO

SOMASOC

ANTANANARIVO

(MADAGASCAR)

محبت الہبیت و نفرت از اعداء الہبیت

قل لا استلکم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترب حسنة
نоздله فيها حسناً ان الله غفور شكور۔ (سورة شوری آیت ۲۳)
”کہ دو! میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبوں سے
مؤودت رکھو اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے،
بے شک اللہ تھے والا قادر دا ہے۔“

ایک حقیقی محبت آل محمد علیم السلام

حکیم بن عینہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی
خدمت میں بیٹھا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کا بیت الشرف مجان آن محمد
سے چھلک رہا تھا کہ اتنے میں ایک یوڑھا شخص لوہے کے عصا کا سارا لئے آپ
کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور کہا: ”السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله
وبركاته۔“

پھر وہ خاموش ہو گیا۔ امام عالی مقام نے جواب میں فرمایا: ”وعلیک
السلام ورحمة الله وبرکاته۔“

پھر یوڑھے نے حاضرین مجلس کی طرف رخ کر کے سب کو سلام کیا
اور پوری محفل نے سلام کا جواب دیا۔
یوڑھے نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی: ”اے
فرزند رسول! مجھے قریب جگہ عطا فرمائیں۔“

فو والله انى لاحكم واحب من يحبكم و والله ما احبكم ولا احب
من يحبكم لطعم فى دنيا والله انى لابغض عدوكم و ابرء منه والله ما
ابغضه و ابرا منه لوتركان بيني وبينه والله انى لا حل حلالكم و احرم
حرامكم و انتظر امركم فهل ترجولى جعلنى الله فداك.

(خدا کی قسم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہئے والوں
سے بھی محبت کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے چاہئے
والوں سے محبت دنیا کی لائج کی وجہ سے نہیں کرتا اور خدا کی قسم میں آپ کے
دشمن سے نفرت کرتا ہوں اور اس سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے
کہ یہ نفرت و بیزاری اس لئے نہیں کرتا کہ مجھے ان سے ذاتی پر خاش ہے۔

الله کی قسم میں آپ کے حلال کو حلال اور آپ کے حرام کو حرام جانتا
ہوں اور میں آپ کی حکومت الہیہ کا منتظر ہوں۔ تو کیا ان عقائد کی وجہ سے آپ
میرے لئے شخص کی کوئی امید رکھتے ہیں؟)

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”میرے قریب آجاو۔ تم نے مجھ
سے جو سوال کیا ہے اسی طرح کا سوال ایک یوڑھے شخص نے میرے والد امام

شخص رونے لگا۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بوڑھے کے آنسو اپنے دست مبارک سے پوچھے۔

بوڑھے نے عرض کی: ”اے فرزند رسول! آپ اپنا ہاتھ دراز کریں۔“

آپ نے ہاتھ دراز کیا تو اس نے آپ کے ہاتھ کو چومنا۔ پھر آپ کے ہاتھ کو اپنے سینے اور شکم پر پھیرا۔ بعد ازاں سلام کر کے چلا گیا۔ جب تک بوڑھا نظر آتا رہا امام محمد باقر علیہ السلام اس کی پشت کو بُو بُو توجہ سے دیکھتے رہے۔ بوڑھے کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک حاضرین پر رفت طاری رہی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص کسی جنتی کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ اس بوڑھے مؤمن کو دیکھے۔“

حکیم ان عینہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس سے زیادہ آج تک اشکوں کے سیالب کا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ (۱)

 سید حمیری نے حالت احتضار میں کیا دیکھا؟

محمد قمی مرحوم اپنی کتاب تہمتہ المنشی میں تحریر کرتے ہیں کہ سید اسماعیل حمیری جلیل القدر و عظیم المزالت مداحالمہیت تھے۔

اصحاب ائمہ میں سے کسی نے بھی ان کی طرح امیر المؤمنین والہیت علیم السلام کے فضائل نہ نہیں کئے۔ آپ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔

۱۔ روضہ کافی ص ۲۷۔

زین العابدین علیہ السلام سے بھی کیا تھا اور میرے والد نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو گا تو سید حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی اور امام حسن اور علی بن الحسین علیهم السلام کے پاس وارد ہو گا اور تو وہاں خوش ہو گا اور تیری آنکھیں ان کے دیدار سے روشن ہوں گی اور کرماں کا تبین کے رویرو تو خوش و خرم ہو گا جب تیری جان حلق تک آجائے گی (آپ نے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا) اور زندگی میں بھی اللہ تجھے وہ کچھ دکھادے گا جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی اور تو جنت میں ہمارے ساتھ بلند و برتر مقام میں ہو گا۔“

بوڑھے نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے امام عالی مقام سے دوبارہ یہی کلمات سننے کی غرض سے عرض کی: ”مولانا! آپ نے کیا فرمایا؟“

امام محمد باقر علیہ السلام نے دوبارہ وہی کلمات ارشاد فرمائے۔

بوڑھے نے کہا: ”اگر میں مرجاوں کا اور میری آنکھیں روشن اور میرا دل شاد اور میرا قلب ٹھنڈک پائے گا اور جب میری جان میرے حلق میں آکر ایکے گی تو میں اس وقت کرماں کا تبین سے حالت خوشی اور سرست ملوں کا اور اگر میں زندہ رہا تو میری آنکھیں روشن ہوں گی اور میں آپ کے ساتھ جنت کے بلند و بالا مقام میں ہوں گا۔“

یہ کہہ کر فرط محبت سے بوڑھا اتنا رویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اشکوں کا سیالب چھپائے ہوئے تھا اور وہ اتنا بے ساختہ رویا کہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے کو روتا دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ہر

(قیامت کے دن علیؑ کے دوش پر ایک پرچم ہو گا اور علیؑ کا چہرہ خورشید تباہ کی طرح چلتا ہو گا۔)

یہ شعر سن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو پنکھنے لگے۔

اور جب سید حمیری نے یہ مصرع پڑھا:

قالوا له لوشت لاعلمتنا

الى من الغاية والمفزع

(لوگوں نے حضورؐ سے کہا کہ اگر آپؐ پسند کریں تو ہمیں یہ بتاویں کہ آپؐ کے بعد ہماری پناہ گاہ (خلیفہ) کون ہے؟)

پیغمبر اسلامؐ نے دونوں ہاتھ بند کئے اور بارگاہ احادیث میں عرض کی: ”اللهم انت الشاهد علی و عليهم انی اعلمتهم ان الغایة والمفزع علی بن ابی طالب۔ (خدایا! تو میر اور ان کا گواہ ہے میں نے انہیں بتلادیا تھا کہ تمہاری پناہ گاہ اور تمہارا ناصر علی بن ابی طالب ہے)۔“

یہ کہہ کر آپؐ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا۔

جب سید حمیری قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”علی بن موسیؑ! اس قصیدے کو حفظ کرو اور ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ بھی اس قصیدے کو حفظ کریں اور اسے ہمیشہ بطور ورد پڑھا کریں اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لئے میں جنت کا ضامن ہوں۔ سید نے مجھے قصیدہ دوبارہ سنایا اور میں نے حفظ کر لیا۔

ججۃ الاسلام علامہ امین اپنی مشہور کتاب الغدیر جلد دوم کے صفحہ ۲۲۲ پر سید حمیری کی فضیلت کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے:

”حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر ایک سیرہ میں لگی ہوئی ہے جس کے ایک سوزینے ہیں۔ چنانچہ میں اس سیرہ میں پرچز ہاتھ ایک بزرگہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں چوتھے تن پاک موجود تھے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا:

لام عمر و باللوی مربع

طامسة اعلامها بلقع

جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا: مر جبا پیارے فرزند علی بن موسی الرضا! اپنے آتاۓ ظاہرین علی و فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام پر سلام کرو۔

میں نے ذوات عالیہ کو سلام کیا۔

پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ سید حمیری ہیں، دنیا میں ہمارے شاعر اور مذاہ تھے انہیں بھی سلام کرو۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سید شعر شروع کرو۔

جب شعر پڑھتے ہوئے سید حمیری اس مصرع پر آئے:

ورایة يقدمها حیدر

و وجهه كالشمس اذا تطلع

(وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اپنے دوستوں کو مشکلات سے نجات نہیں دیتے۔

مجھے اپنے رب کی قسم میں جنت عدن میں داخل ہوا اور اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔

تو محبان علی! آج تمہیں خوش خبری ہو اور مرتبہ وقت تک علی سے محبت رکھو۔

اس کے بعد اس کی اولاد سے تو لا رکھو جو ایک کے بعد ایک صفات میں برادر ہیں۔)

﴿نَجْتَنٌ كَوْنِيَ كَمْ نَهِيْنَ بِنَا﴾

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آئائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی صلب میں ہمارے نور کی چمک کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اشباح کو عرش کی بلندی سے ان کی پشت میں منتقل کیا تھا، حضرت آدم نور کی درختانی کو دیکھ رہے تھے لیکن انہیں اشباح نور کی تعداد کا علم نہ تھا تو انہوں نے عرض کی: ”خدایا یہ نور کیسے ہیں؟“

آواز قدرت انہیں سنائی دی: ”یہ اشباح نور ہیں جنہیں میں نے عرش کے بلند ترین مقام سے تیری پشت میں منتقل کیا ہے۔ (ولذلك امرت الملائکہ بالسجود لک اذ کنت دعاء لتلك الاشباح) اسی لئے میں نے فرشتوں کو تیرے سجدے کا حکم دیا تھا کیونکہ تو ان کے لئے ایک طرف تھا۔“

عون کرتے ہیں جب سید حمیری کی وفات کا وقت ہوا تو میں اس وقت ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر میں موجود تھا اور اس وقت ان کے بہت سے مذہبی مخالف عثمانی اللہ ہب لوگ بھی جمع تھے اور ان کے ہم عقیدہ دوست بھی موجود تھے۔ سید حمیری خوبصورت اور کشاورہ پیشانی والے تھے۔

ان پر جیسے ہی حالت اختصار شروع ہوئی ان کی پیشانی پر ایک سیاہ نقطہ سا پیدا ہوا پھر وہ پھیلتے پھیلتے ان کے سارے چہرے پر پھیل گیا۔ اس وقت سید حمیری نے تین مرتبہ پکارا کہ کما: ”هکذا یافعل باولیانک یا علی۔ یا علی! کیا آپ کے دوستوں کا کیسی انجام ہوتا ہے؟“

آپکی یہ حالت دیکھ کر شیعہ پریشان ہوئے اور ناصبی خوش ہونے لگے۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ جس مقام سے سیاہ نقطہ اپھر اتحا اسی مقام سے روشنی کی پھیلنے لگی۔

پھر کیا تھا چند لمحات میں ان کا پورا چہرہ نور سے جگگانے لگا اور سید نے مسکراتے ہوئے فی البدیسہ یہ شعر پڑھے:

كَذْبُ الزَّاعِمُونَ إِنْ عَلِيَا
لَنْ يَنْجِيْ مَحْبَهُ مِنْ هَنَاتِ
قَدْوَرَبِيْ دَخَلَتْ جَنَّةَ عَدَنَ
وَعَفَالِيْ إِلَّا لَهُ عَنْ سِينَاتِيْ
فَابْشِرُوا الْيَوْمَ أُولَيَاءَ عَلَىِ
وَتُولُوا عَلَيْهَا حَتَّىِ الْمَمَاتِ
ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ تُولُوا بَنِيهِ
وَاحْدًا بَعْدَ وَاحِدًا بِالصَّفَاتِ

فتوصیل بھم الیٰ یا آدم واذا دھتک داھیہ فاجعلهم شفعاؤک فانی الیت علیٰ
نفسی قسمًا حقالا اخیب بھم افلا ولا ارد لھم سائلًا

یہ میری بہترین اور اکرم ترین مخلوق ہیں اور انہی کے واسطے سے میں
عطاؤ کروں گا اور انہی کی وجہ سے میں کسی کی گرفت کروں گا اور انہیں کی وجہ
سے میں لوگوں کو مورد موافذہ قرار دوں گا اور انہی کے واسطے سے میں ثوب
دلوں گا۔“

آدم تم ان سے توسل رکھو اور جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو
انہیں میری بارگاہ میں شفیع بناؤ کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بات کی قسم دے چکا
ہوں کہ ان کا واسطہ دینے والے کسی امیدوار کی امید کو ناکام نہیں کروں گا اور
ان کا واسطہ دینے والے کسی سائل کو رد نہیں کروں گا۔

جب حضرت آدم سے ترک اولی سرزد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
انہی ناموں کا واسطہ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔

مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے (واذ
ابتلی ابراہیم ریہ بکلمات کی تفسیر کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ
وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی تھی کیونکہ
آدم نے قبولیت توبہ کے لئے یوں دعا کی تھی:

یا ربِ اسالک بحقِ محمد و علی و فاطمۃ و الحسن و الحسین
الاَتُّبَ عَلَیْ. (خدیلایا! میں تجھے محمد و علی و فاطمۃ و حسن و حسین کا واسطہ دیتا ہوں
کہ میری توبہ کو قبول فرم۔)

اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ ”تواب“ اور ”رحیم“ ہے۔

آدم علیہ السلام نے عرض کی: ”خدیلایا! کاش ان انوار کو تو میرے
لئے آشکار کرتا۔“

اس وقت خطاب ہوا: ”آدم! بالائے عرش نگاہ کرو۔“ اس وقت پشت
آدم سے ہمارے اشباح نور کی تصویر عرش پر منکس ہوئی۔
آدم نے اسے دیکھا تو پوچھا: ”خدیلایا! یہ کن افراد کے نور ہیں جو عرش
پر منکس ہو رہے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”آدم! یہ میری اشرف و افضل مخلوق کے اشباح
ہیں یہ محمد ہے اور میں اپنے تمام افعال میں محمود ہوں۔ میں نے اس کا نام اپنے
نام سے نکالا ہے۔

دوسراعلیٰ ہے اور میں علی العظیم ہوں میں نے اس کا نام بھی اپنے نام
سے مشتق کیا ہے۔

اور یہ فاطمہ ہیں اور میں فاطر السموات والارض ہوں اور میرا ایک
نام ”فاطم“ بھی ہے (انا فاطم اعدائی من رحمتی يوم فصل القضاء و فاطم
اولیانی مما يبیرهم و يشينهم) میں اپنے دشمنوں کو قیامت کے دن اپنی
رحمت سے قطع کرنے والا ہوں اور اپنے دوستوں کو ہلاکت و رسوانی سے قطع
کرنے والا ہوں۔

میں نے فاطمہ کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔
اور یہ دو حسن اور حسین ہیں اور میں حسن و حمبل ہوں اور میں ہی
مرچشمہ احسان ہوں۔ میں نے ان دو کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ (هؤلاء
خیار خلقی و کرامہ بریتی بھم اخذ و بھم اعطی و بھم اعقاب و بھم اثیب

اور زیور موجود ہیں، آپ انہیں فروخت کر دیں اور حج بیت اللہ کے لئے زادراہ حاصل کریں۔

چنانچہ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا۔ جب میں مدینہ کے قریب پنجاٹا میری بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر میں نے اپنی بیوی اور کنیز کو ایک جگہ بٹھایا اور میں امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ اس وقت میں اپنی بیوی کی صحت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔

میں نے آقا کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے مجھ سے میری بیوی کی خیریت دریافت کی۔ میں نے اس کی بیماری کے متعلق عرض کی اور کہا: ”جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔“

آپ سر جھکا کر کچھ دیر فکر و تامل کرتے رہے، پھر آپ نے سر بلند فرمایا اور کہا: ”اپنی بیوی کی بیماری سے غمگین ہو؟“
میں نے عرض کی: ”بھی ہاں۔“

آپ نے فرمایا: ”غمگین نہ ہو وہ ثیک ہو جائے گی، میں نے اللہ سے اس کی صحت کی درخواست کی ہے۔ جب تم واپس جاؤ گے تو وہ تمہیں تقدیرست نظر آئے گی اور ”طبرزاد“ (ایک مخصوص قسم کی شکر) کھاری ہو گی۔“
میں بڑی جلدی سے واپس آیا تو دیکھا میری بیوی بالکل صحتیاب ہے اور کنیز سے طبرزاد شکر کھلا رہی ہے۔

مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”اے فرزند رسول! آیت میں فاتمہن کے الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟“
آپ نے فرمایا: ”اللہ نے حضرت مددی علیہ السلام کے نام تک ان کلمات کی تحریک کی۔ (۱)

آل محمدؐ اپنے محبوب سے کیا سلوک کرتے ہیں

سفیان بن مصعب عبدی شاعر آل محمدؐ تھے۔ ان کی رہائش کوفہ میں تھی۔ ان ہی کے ایمان پرور اشعار کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا: ”یا معاشر الشیعۃ علّمُوا اولادکم شعر العبدی فانہ علیٰ دین اللہ۔ (اے گروہ شیعہ! اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار کی تعلیم دو بے شک وہ اللہ کے دین پر ہے)۔“

صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ عبدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے کہا: ”مکافی مدت ہوئی ہے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہیں، بہتر ہو گا کہ امسال ہم حج پر جائیں اور حج سے فراغت پانے کے بعد امام عالی مقام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر لیں گے اور یوں ان سے تجدید عمد بھی ہو جائے گی۔“

میں نے کہا: ”خداؤ گواہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اخراجات کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔“

میری بیوی نے مجھ سے کہا: ”کوئی حرج نہیں! میرے پاس کچھ لباس

تسل کا نتیجہ

داود رقی بیان کرتے ہیں کہ میرے دو بھائی حج کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں میرے ایک بھائی پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ اتفاق سے اس وقت ان کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا، پیاس اتنی بڑھی کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھنے کے قابل نہ رہا، گدھے سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔

میرے دوسرے بھائی نے اور اہر پانی ملاش کیا لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر دوسرے بھائی نے دور رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو محمد و علی کا واسطہ دیا پھر باری باری ایک امام کا واسطہ دینا شروع کیا، آخر میں امام زمانہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا بار بار واسطہ دیا اور ان سے متول ہوا۔

اسی اثناء میں ایک شخص نمودار ہوا اور کہا: ”تمہارا بھائی زمین پر کیوں لیٹا ہوا ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”یہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔“ نووارد نے ایک چھوٹی سی لکڑی دی اور کہا: ”اسے بھائی کے ہونوں پر پھیرو۔“

میرے بھائی نے وہ لکڑی لے کر بھائی کے ہونوں پر پھیرو۔ تھوڑی دیر بعد بھائی ہوش میں آگیا اور پھر دونوں بھائی چل پڑے۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہو کر اپنے گھر کوفہ آئے۔

پھر کچھ عرصے بعد میرا ایک بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لئے مدینہ گیا تو امام عالی مقام نے فرمایا: ”اپنے بھائی کا حال سناؤ اور

میں نے بھی سے پوچھا: ”اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟“

میری بیوی نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعة عطا کی ہے اور طبرزد شکر کھانے کا مجھے شوق ہوا۔“

میں نے کہا: ”جب میں تجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو میں تیری زندگی سے مایوس تھا۔“

امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں تمہاری بیماری کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری بیوی شفایاب ہو چکی ہے اور طبرزد کھارہ ہو گی۔“

میری بیوی نے بتایا: ”واقعی جب تم یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو چند لمحات کے بعد ملک الموت میرے پاس آیا تھا اور میری روح قبض کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ایک مرد اس وقت نمودار ہوا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے آتے ہی ملک الموت سے کہا: ”ملک الموت۔“

اس نے عرض کی: ”بلیک اے امام۔“

پھر انہوں نے کہا: ”میا تجھے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟“

ملک الموت نے کہا: ”بھی باہ۔“

پھر انہوں نے کہا: ”میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح قبض مست کرو اس کی عمر مزید یہس برس بیوحدادی گئی ہے۔“

ملک الموت نے کہا: ”حضور بہتر ہے، آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ پھر ملک الموت چلا گیا اور میں ہوش میں آگئی۔“ (۱)

براء عن معروف میں حس مزاج زیادہ تھی، انہوں نے کہا: ”تو کیا آپ پیغمبر اسلام کو سمجھتے ہیں؟“

حضرت علی نے فرمایا: ”نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے یہ بات آنحضرت کے احترام و عظمت کے پیش نظر کی ہے۔ ہمارے لئے یہ بات کسی طرح سے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے آپ پر سبقت کریں۔“

براء نے کہا: ”مگر میں حضور کریمؐ کو خیل نہیں سمجھتا۔“

حضرت علی نے فرمایا: ”بات یہ ہے کہ یہ غذا ایک یہودی عورت کی طرف سے آئی ہے اور اس پر مکمل طور پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا، اگر تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کھاؤ گے تو تمہیں کسی طرح کا گزند نہیں پہنچے گا اور اگر تم نے خود کھانا شروع کر دیا اور اس کا کوئی نقصان ہوا تو اس نقصان کے ذمہ دار تم خود قرار پاؤ گے۔“

براء یہ سب سن کر بھی کھانا کھاتا رہا اور اسی مسموم لقمہ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

لام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”براء عن معروف کا جائزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاایا گیا تو آپ نے فرمایا: ”علی عن اٹی طالب کمال ہیں؟“

لوگوں نے عرض کی: ”علیؑ کسی مسلمان کا کام کرنے کے لئے قبائلے ہوئے ہیں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”علیؑ کے آنے تک اس کے جائزے میں تاخیر کرو اور یہ حکم میری طرف سے نہیں ہے بلکہ رب

یہ بتاؤ کہ وہ لکڑی کمال ہے؟“

میرے بھائی نے عرض کی: ”مولا! جب میرا بھائی ہوش میں آیا تو میں فرط سرست سے اس قدر مسرور ہوا کہ وہ لکڑی اخہانی مجھے یاد نہ آئی۔“

آپ نے فرمایا: ”جب تو اپنے بھائی کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو اس وقت میں نے خضر علیہ السلام کو شجرہ طویل کی وہ لکڑی دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا۔“

پھر آپ نے غلام کو آواز دے کر فرمایا: ”چجزے کا تھیلا لاؤ۔“

غلام تھیلا لے کر آیا تو آپ نے اس میں سے وہی لکڑی نکال کر دکھائی اور فرمایا: ”یہ وہ لکڑی ہے جو شجرہ طویل سے لی گئی ہے اور یہی لکڑی تو نے اپنے بھائی کے لبوں پر پھیری تھی۔“

پھر آپ نے وہ لکڑی دوبارہ تھیلے میں رکھ دی۔ (۱)

لکڑی دعائے علیؑ کی اہمیت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر فتح کرنے کے بعد مدینہ تشریف لارہے تھے۔ ایک یہودی عورت نے بھری کی ران میں زہر ملا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔

ابھی آنحضرت نے اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ براء عن معروف صحابی نے اس گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔

حضرت علیؑ نے براء سے فرمایا: ”پیغمبر اسلام پر سبقت نہ کرو۔“

پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کرنے کا حکم دیا
براء دفن ہو گئے۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلقین سے فرمایا: ”براء سے والستہ لوگو! میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جب براء کی روح نے آسمانوں کی طرف سفر کیا تو آسمان اول سے لے کر آسمان ہفتم تک اور حباب سے لے کر عرش و کرسی تک کے تمام فرشتوں نے اس کی روح کا استقبال کیا اور جب اس کی روح جنت کی طرف روانہ ہوئی تو خازن جنت اور حوران جنت نے اس کا استقبال کیا اور اس سے کہا ”طوبیک طوبیک یا روح البراء انتظر علیک رسول اللہ علیا حتی ترحم علیک واستغفرلک“ (ایے براء کی روح! تجھے مبارک ہو پیغمبر نے تیرے جنازے کے لئے علی کے آنے کا انتظار کیا تاکہ وہ تیرے اوپر رحم کریں اور تیرے لئے استغفار کریں) اللہ کی طرف سے حاملین عرش نے ہمیں بتایا کہ تمہارے پاس ایک مرد مؤمن کی روح آنے والی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان دی، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات اور قنطرات باران اور حیوانات کے بالوں کی تعداد میں بھی ہوتے تو میں علی بن ابی طالب کی دعا کے صدقے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔“

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَتَعْرِضُوا عِبَادُ اللَّهِ لِدُعَاءِ عَلَى لَكُمْ وَلَا تَتَعَرِضُوا لِدُعَاءِ عَلَى عَلِيِّكُمْ فَإِنْ دُعَا عَلَيْهِ أَهْلُكَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ بَعْدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ كَمَا أَنْ مَنْ دُعَا لَهُ أَسْعَدَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَتْ سِيَّئَاتُهُ بَعْدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ.

(پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بندگان خدا! علی کی

العزت کا یہی فرمان ہے کہ اس کے جنازے میں تاخیر کی جائے تاکہ علیؑ آجائیں اور اس کی گستاخی کی معافی دیں اور میں براء کی مغفرت کروں اور اسی نماق کے کفارے کے طور پر اس کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔“

صحابہ نے عرض کی: ”یاد رسول اللہ! براء حس مزاج رکھتا تھا اور اس نے علیؑ سے جو کچھ کہا تھا بطور مزاج کہا تھا، ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کا ماؤاخذہ نہیں کرے گا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اگر براء یہ بات بطور مزاج نہ کہتا تو اللہ اس کے تمام اعمال اکارت کر دیتا اگرچہ اس کے اعمال زمین و آسمان کے برادر ہوتے اور اگر وہ زمین و عرش کے درمیانی فاصلہ جتنا بھی سونا، چاندی صدقہ کرتا تو بھی اللہ قبول نہ کرتا۔ البتہ براء مزاج کی عادت رکھتا تھا اور اس نے وہ جملہ بطور مزاج کہا تھا اور میں آج یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ علیؑ اس سے ناراض نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ علیؑ اسے دو مرتبہ معاف کرنے کا اعلان کر دیں اور اس کے لئے مغفرت طلب کریں تاکہ براء کے قرب و بلعدی درجات کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔“

تحویلی دیر بعد حضرت علیؑ تشریف لائے اور براء کے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”براء! اللہ تجھ پر رحمت فرمائے تو بذا نمازی اور روزہ دار شخص تھا، خدا کی راہ میں تیری موت واقع ہوئی۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص میری نماز جنازہ سے مستغنى ہو سکتا تو یقیناً آج براء مستغنى ہوتا لیکن ہر شخص میری دعائے خیر کا محتاج ہے۔“

آپ کا شیدائی دوبارہ نہ آیا۔ آپ نے اصحاب سے اس کے متعلق پوچھا تو اصحاب نے بھی لا علیٰ کا اظہار کیا۔ پھر آپ چند ساتھیوں کو لے کر اس کی دکان پر گئے وہ دکان پر بھی نہیں تھا اور دکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر آپ اس کے محلے میں تشریف لائے اور اس کے ہمایوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔

پھر ہمایوں نے آپ سے کہا: ”یا رسول اللہ! وہ ایک امین شخص تھا اور ہمیشہ حج یولنے والا تھا لیکن اس میں یہ عیب تھا کہ وہ عورتوں کا پیچھا کیا کرتا تھا۔“

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رحمہ اللہ واللہ لقد کان یعنی حبالو کان نخاسا لغفر اللہ لہ۔
 (رحمۃ اللعابین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ اس پر رحم فرمائے، خدا کی قسم وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اگر وہ بروہ فروش (جو آزاد کو غلام بنان کر پیچتے ہیں) بھی ہوتا تو بھی اسے ضرور معاف کرو یتا۔“) (۱)

﴿اعتقاد ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے﴾

ابو شبل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام عالی مقام نے از خود اہتمائے کام کرتے ہوئے فرمایا: ”تم ہم سے محبت کرتے ہو جبکہ لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، تم ہماری تصدیق کرتے ہو جبکہ لوگ محنّیب کرتے ہیں، تم ہمارے حقوق کا خیال رکھتے

۱۔ روشنہ کافی ص ۸۷۔

دعای حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی بد دعا سے بچو۔ جسے علیٰ بد دعا کر دے تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اگرچہ اس کی نیکیاں تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں اور جسے علیٰ دعا کر دے تو اللہ اسے سعادت مند بنا دے گا، اگرچہ اس کے گناہ تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر ہوں۔“ (۱)

﴿المرء مع من أحب﴾

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک تیلی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اس کا اصول تھا کہ جب تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر کی زیارت نہ کر لیتا اس وقت تک اپنے کام پر نہ جاتا۔ جب وہ آتا تو آپ بھی سامنے آجائے تاکہ وہ آپ کا دیدار کر سکے۔ حسب عادت ایک دن وہ آپ کے دیدار میں مصروف ہو گیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بیٹھ جاؤ۔“ وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: ”کیا وجہ ہے کہ آج تم نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا؟“

اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جب میں یہاں سے روانہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کام کے لئے نہیں جانا چاہئے، تو میں کام پر نہیں گیا۔ واپس آیا تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کی خواہش لے کر حاضر ہو گیا۔“ آنحضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس واقعہ کے چند دن تک

۱۔ حخار الانوار ج ۷، ا۔ چاپ انونڈی ص ۳۱۰۔

ہو جکہ لوگ ہم پر جفا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہدایت و سعادت و رحمت کے لئے تمہاری زندگی کو ہماری زندگی جیسا بنایا ہے اور ہماری موت کی طرح تمہاری موت کو بھی تمہارے لئے سعادت لبدی کا ذریعہ بنایا ہے اور اس امر کی جانب ہمیشہ متوجہ رہو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان دیدار بہشت اور نیارت رسول کریم اور انہمہ ہدیٰ ہیں اور جیسے ہی جان یہاں تک پہنچے گی تو دیدار جنت اور دیدار محمد و آل محمد نصیب ہو جائے گا۔

پھر آپ نے انگلی سے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا اور بعد ازاں متعدد مرتبہ اس جملے کی تکرار فرمائی اور قسم کھاکر فرمایا: ”وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِحَدْثَنِي أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَىٰ بِذَلِكَ۔ (پورا دگار کی قسم! جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ حدیث میرے والد محترم امام محمد باقرؑ نے میرے سامنے بیان فرمائی ہے)۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”لَوْ شَاءَ إِلَيْكَ أَنْ تَمْسِحَ بَاتٍ بِرَاضِيٍّ نَهِيْسَ بَوْ كَمْ بَهِيْ نِمازٌ پڑِھَتَهُ ہو اور دوسرے بھی نِمازٌ پڑِھَتَهُ ہیں مگر تمہاری نِماز قبول ہوتی ہے اور ان کی نہیں۔

تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور تمہارے مخالف بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جبکہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے اور تمہارے مخالفین کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔

تم حج کرتے ہو اور تمہارے مخالف بھی حج کرتے ہیں جبکہ تمہارا حج قبول ہوتا ہے اور تمہارے مخالفین کا حج قبول نہیں ہوتا۔

تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم خدا کا تقویٰ اختیار کرو، اس زمانے

میں سلطنت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ المانٹ کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہئے، لوگ اگر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو کرتے رہیں لیکن تم اپنے خدا کی فرماں برداری پر قائم رہو اور ہماری پیروی پر ثابت قدم رہو۔

اللہ نے اپنے بندوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، تم نے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبرؐ کی پیروی کی۔

خدا سے ڈرتے رہو اور لوگوں کی ا manusیں ان تک پہنچاؤ، المانٹ کا پہنچانا بھر صورت واجب ہے، المانٹ خواہ سیاہ کی ہو یا سفید کی، المانٹ خواہ نہروں کے کسی خارجی کی ہو یا شام کے کسی ناصی کی۔ (۱)

نجات کا حقيقی راستہ

محمد بن مسلم نے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہما السلام میں سے کسی ایک بزرگ سے روایت کی ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ میں ایسے افراد بھی دیکھتا ہوں جو بڑی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی ہدگی جالاتے ہیں لیکن وہ انہمہ ہدیٰ علیم السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے اور حق کو نہیں پہچانتے تو کیا ان کی عبادت اور ان کا خشوع انہیں فائدہ دے گا؟

امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا: ”البَهِیْتُ پیغمبرؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بنی اسرائیل کے اس خانوادے کی طرح ہے کہ اس خانوادے کا ہر فرد جب بھی چالیس راتوں تک عبادت کرتا اور دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی

کہ دشمنان علیٰ را نماز نیست درست
اگرچہ سینہ اشتہ کنند پیشانی
(قادر مطلق خداوند بجان کی قسم اور تمام فرشتوں کی قسم دشمن علیٰ کی
نماز درست نہیں ہے اگرچہ وہ اتنے جدے کیوں نہ کرے کہ اس کی پیشانی
اوٹ کے سینے کی طرح ہو جائے)۔

”ایام سے دشمنی نہ رکھو“ کا مفہوم

صرق بن ابی دلف کہتے ہیں کہ میں نے متوكل کے زندان میں امام علی
نقی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام ایک پریے پر
بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے قبر کھدی ہوئی تھی۔
میں نے آقا کو سلام کیا، آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا اور مجھ سے فرمایا:
”صرق بن ابی دلف! یہاں کیسے آئے ہو؟“

میں نے عرض کی: ”میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔“
پھر میں قبر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگا۔
امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”صرق! مت گھبراویہ مجھے کوئی گزند
نہیں پہنچا سکیں گے۔“
میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔

میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: ”مولا! میں نے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے جس کا مفہوم میں
آج تک سمجھ نہیں سکا۔“

دعا ضرور قبول فرماتا تھا۔ اسی خاندان کے ایک فرد نے چالیس راتوں تک
عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیگی لیکن اس کی دعا مستجاب نہ ہوئی۔
وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دعا کے رد
ہونے کے متعلق عرض کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور اس شخص
کے متعلق بارگاہ احادیث میں درخواست کی۔

آواز قدرت آئی: ”عیسیٰ! جب تک یہ شخص میرے مقرر کردہ راستے
سے نہیں آئے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، وہ مجھ سے دعا تو مانگتا ہے
لیکن اس کے دل میں تیری نبوت کا شک موجود ہے، اگر وہ مجھ سے اتنا عرصہ
بھی دعا مانگے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے اور دعا مانگنے والگے اس کی انگلیاں
بھی گر جائیں تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت میرا راستہ تو
ہے جو تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنا چاہے تو وہ نہیں آسکے گا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ”خدا
سے دعا مانگنے ہو اور اس کے نبی کی نبوت میں شک کرتے ہو؟“
اس شخص نے کہا: ”آپ نے جو کچھ کہا وہ حق ہے، آپ دعا کریں کہ
میرے دل میں آپ کی نبوت کے متعلق جو شک ہے وہ دور ہو جائے۔“
حضرت عیسیٰ نے دعائیگی اس کے دل سے شک کی تاریکی دور ہو گئی
اور اسے بھی اللہ نے اس کے خاندان کے باقی افراد کا سامقام دے دیا۔(۱)

بحق قادر یہ چون خدای سبحانی
بحق جملہ کرو بیان روحانی

رحمہ للعالمین۔ ہم نے آپ کو تمام جماں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“
عربی کیلندر میں دوسرا دن یوم الاحد ہے، یعنی ”احد“ کا دن۔ بالفاظ
دیگر یہ دن اس ہستی کے نام سے موسم ہے جو مخلوقات میں احمد ہے بے مثال
ہے اور وہ ذات حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ اسی لئے یہ دن حضرت علی علیہ
السلام کا دن قرار پایا۔

تیسرا دن یوم الاثنين (سوموار) ہے۔ یوم الاثنين کے لغوی معنی ہیں
دو کا دن تو یہ دن دو ایسی ہستیوں کے نام سے موسم ہے جو رتبے اور فضیلت
کے اعتبار سے برادر ہیں اور وہ دو بے مثال افراد امام حسن اور امام حسین علیہما
السلام ہیں۔ اسی لئے یوم الاثنين ان بھائیوں کا دن ہے۔

یوم الثلثاء (منگل) اس لفظ کے مغوی معنی ہیں تین کا دن تو یہ دن
امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام ان تین
معصومین کا دن ہے۔

یوم الاربعاء (بده) کے معنی ہیں چار کا دن تو یہ دن امام موسی کاظم،
امام علی رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہم السلام کا دن ہے۔

یوم الخمیس (جمرات) لشکر کا دن تو یہ دن اس شخصیت کی طرف
منسوب ہے جس کا تعلق لشکر و عسکر سے ہے اور معصومین میں وہ ذات امام
حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔

یوم الجمعة (جمع) یعنی جمع کرنے والے کا دن۔ تو یہ دن اس عظیم
شخصیت کا ہے جو لوگوں کو حق و صداقت پر جمع کرے گی اور وہ ذات والا صفات
امام صاحب الزمان علیہ السلام عجل اللہ فرج کی ہے۔

آپ نے فرمایا: ”تمہارا اشارہ کس حدیث کی جانب ہے؟“
میں نے عرض کی: ”آنحضرت کی ایک حدیث ہے کہ ”لا تعادوا
الایام فتعادیکم۔ دنوں سے دشمنی نہ رکھو ورنہ دن بھی تم سے دشمنی کریں
گے“ اس حدیث کا مفہوم آج تک میرے ذہن میں واضح نہیں ہوا۔“

امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”لیام“ سے مراد ہم ہیں۔ بفتہ
رسول خدا کا دن ہے۔ اتوار امیر المؤمنین، سوموار امام حسن و حسین، منگل علی
بن الحسین محمد بن علی و جعفر بن محمد، بده موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد
بن علی و علی بن محمد کا دن ہے، جمعرات میرے فرزند حسن عسکری اور محمد
میرے پوتے صاحب الزمان کا دن ہے۔ اہل حق ان پر اجتماع کریں گے اور وہ
اس جمعیت حق کی وجہ سے زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کریں گے جیسا
کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ”لیام“ کا یہی مفہوم ہے، خبردار دنیا میں رہ کر
ان سے دشمنی نہ کرنا ورنہ یہ آخرت میں تمہاری دشمنی کریں گے۔“

پھر فرمایا: ”اب تم چلے جاؤ تاکہ خالموں کی نگاہوں میں نہ آؤ۔“ (۱)

تو پڑھ: عربی زبان میں ہفتے کے دن اس طرح سے گئے جاتے ہیں: یوم
السبت، یوم الاحد، یوم الاثنين، یوم الثلثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس،
یوم الجمعة۔

پہلا دن یوم السبت (ہفتہ) سبت کا دن یعنی سکون کا دن تو گویا یہ دن
اس شخصیت سے موسم ہے جس نے کائنات کو رحمت و سکون عطا کیا ہے اور وہ
ذات پاک وہی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وما ارسلنک الا

نے اپنی آدمی نیکیاں شیعوں کو دے دی ہیں۔“
یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم مجھ سے
زیادہ بخی نہیں ہو، میں نے بھی اپنی آدمی نیکیاں شیعان علیؑ کو دے دی ہیں۔“
اسی اثناء میں رب العزت نے خطاب کیا: ”تمہاری سخاوت و کرم مجھ
سے زیادہ تو نہیں ہے، میں نے شیعان علیؑ کے گناہوں کو معاف کیا۔

دشمنوں سے حسن سلوک

یا سر خادم کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے امین الرشید کے قتل
کے بعد مامون الرشید کو مشورہ دیا کہ اس وقت تمہیں خراسان میں رہنے کی
ضرورت نہیں ہے بہتر ہے کہ تم بغداد کو اپنا پایہ تخت قرار دو کیونکہ بغداد
تمہارے آباء و اجداد کے وقت سے پایہ تخت رہا ہے۔ تمہیں بغداد جا کر امور
مسلمین سرانجام دینے چاہئیں۔

اس مشورہ کا علم ذوالریاستین کو ہوا اور ذوالریاستین پوری طرح سے
اس وقت مامون کے دل و دماغ پر مسلط تھا۔ اس کی موجودگی میں مامون کوئی
رائے تک نہیں دیتا تھا۔

ذوالریاستین نے مامون کو ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا: ”میرا مشورہ
مانیں آپ اس وقت بغداد مت جائیں کیونکہ اہل بغداد کو علی رضاؑ کی ولی عمدی
کا صدمہ ہے اور انہوں نے ابھی تک امین کے قتل کو بھی نہیں بھلاکا۔ لہذا
بہتری اسی میں ہے کہ آپ بغداد مت جائیں اور اگر آپ مزید مشورہ کرنا چاہیں
تو یہاں آزمودہ کار ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک مدت تک آپ

اور اسی مناسبت سے ان لیام میں معصومین کی مخصوص زیارات پڑھی
جاتی ہیں۔ (من المترجم عفالله عنہ).

شیعان علیؑ کتنے خوش نصیب ہیں؟

عہاد الدین طبری الامی اپنی کتاب بشارة المصطفیٰ میں رقم طراز ہیں:
ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوش و خرم
ہو کر علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔

علیؑ نے سلام کا جواب عرض کیا اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! آج آپ
بہت زیادہ مسرور نظر آتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا مسرور کبھی
نہیں دیکھا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”علیؑ! میں تمہیں خوش
خبری سننے آیا ہوں، ابھی جریئل نازل ہوئے تھے اور کما کہ اللہ آپؐ کو سلام
کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپؐ علیؑ کو بشارت دیں اس کے تمام شیعہ خواہ مطیع
ہوں یا عاصی سب کے سب جنتی ہیں۔“

حضرت علی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ الفاظ نے فوراً سجدے میں چلے
گئے اور سجدہ کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا: ”پروردگار! گواہ رہنا میں نے
اپنی آدمی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے دی ہیں۔“

امام حسین علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور کہا: ”خدیلیا! گواہ رہنا میں
نے اپنی آدمی نیکیاں اپنے والد کے شیعوں کو دے دی ہیں۔“

امام حسن علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور کہا: ”خدیلیا! گواہ رہنا میں

پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے اس کا سر قلم کر دیا۔

پھر مامون نے ان یونس کو حاضر کرنے کا حکم جاری کیا جب ان یونس دربار میں آیا اور امام علی رضا کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے مامون سے کہا جسے تو نے اپنے پہلو میں بھایا ہوا ہے یہ (نحوہ باللہ) ایک بت ہے خدا کو چھوڑ کر آج جسے پوچھا جا رہا ہے۔

مامون نے کہا: ”گرفتاری اور زندان کے باوجود بھی تیرا دماغ ابھی تک درست نہیں ہوا۔“

پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے فوراً اس کا سر جدا کر دیا۔

ان دو افراد کے بعد مامون نے حکم دیا کہ جلووی کو حاضر کیا جائے اور جلووی وہ شخص ہے کہ جب محمد بن جعفر بن محمد نے مدینہ میں ہارون کے خلاف خروج کیا تھا تو ہارون نے اسے فوج دے کر مدینہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جب تو کامیاب ہو جائے تو محمد کا سر تن سے جدا کر دینا اور آل ابو طالب کے تمام گھروں کو لوٹ لینا اور ان کی مستورات تک کو لوٹ لینا اور مستورات کے تمام کپڑے اور زیورات تک لوٹ لینا۔

جلووی نے ہارون کے حکم کی تعیل کی تھی اور اپنے شکر کو لے کر امام علی رضا کے دروازے پر آگیا تھا۔ امام علی رضا دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اسے فرمایا کہ تمہارا مقصد ہمارا مال و سامان لوٹنا ہے۔ لہذا تجھے اپنی فوج سمیت یہیں رک جانا چاہئے میں خود تمام مستورات کا سامان لے کر تمہارے حوالے

کے باپ ہارون کی خدمت کی تھی۔“

مامون نے کہا: ”تم کن لوگوں کے متعلق کہنا چاہتے ہو؟“

ذوالریاستین نے کہا: ”آپ علی بن ابی عمران، ان یونس اور جلووی سے بھی مشورہ کر لیں۔“

درج بالا تینوں افراد نے امام علی رضا کی ولی عمدی کی مخالفت کی تھی، اسی لئے مامون نے ان کو زندان میں ڈال دیا تھا۔

مامون نے کہا: ”بیڑت ہے میں ان سے بھی مشورہ کروں گا۔“

دوسری صبح امام علی رضا کو دربار میں تشریف لائے اور مامون سے کہا: ”میں نے جو تمہیں مشورہ دیا تھا، تم نے اس کے متعلق کیا سوچا؟“

مامون نے کہا: ”میں نے ذوالریاستین سے گفتگو کی تھی مگر وہ اس بات سے متفق نہیں ہے اور ابھی میں تین افراد کو یہاں بلا کر بھی گفتگو کرتا ہوں۔“

پھر مامون نے کہا: ”علی بن ابی عمران کو لاایا جائے۔ ملازیں اسے زندان سے نکال کر دربار میں لائے۔ جیسے ہی اس کی نظر امام علی رضا علیہ السلام پر پڑی تو مامون کو خطاب کر کے اس نے کہا: ”امیر المؤمنین خدا کی پناہ! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بنی عباس سے خلافت کو نکال کر اولاد علی میں دے رہے ہیں جب کہ آپ کے آباء و اجداد ان کو قتل کرتے رہے اور یہ خاندان ان کے خوف سے روپوشی اختیار کرتا تھا، آج پھر وہی خاندان دوبارہ بر سر اقتدار آگیا ہے۔“

مامون نے کہا: ”زنزاوہ! زندان میں رہنے کے باوجود ابھی تک تو اپنی بے ہودہ بجوس سے باز نہیں آیا۔“

کر دیتا ہوں۔

امام علی رضا کی پیشکش کو اس لمحن نے نہ مانتا اور کہا: "مجھے ہارون کا حکم ہے میں گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کروں گا۔"

امام علی رضا علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا: "میں وعدہ کرتا ہوں کہ گھر میں مستورات کے پاس جو بھی سامان ہو گا میں وہ تمام سامان تیرے پاس لے آؤں گا، خاندان محمد کی بہو بیٹیاں عزت و پرده کی مالک ہیں تم فوج لے کر غارت گری نہ کرو۔"

آخر کار کافی محدث و تبحیص کے بعد جلوہ دی نے امام علی رضا کا کہا مانا۔ امام علی رضا علیہ السلام گھر کے زنان خانے میں آئے اور فرمایا کہ تمام بیٹیاں اپنے تمام زیورات اور اضافی کپڑے خود ان کے حوالے کر دیں، تمام بیٹیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے زیور اتارے اور گھر ہی بنا کر امام علی رضا کو دی۔ امام علیہ السلام نے زہرا زادیوں کے زیور اور ملبوسات جلوہ دی کو دیئے۔

بہر توں مامون کے حکم کے تھوڑی دیر بعد جلوہ دی دربار میں حاضر ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے آہستہ سے مامون کے کان میں کہا: "جلوہ دی کو کچھ نہ کو میری وجہ سے اسے معاف کر دو۔"

مامون نے کہا: "حضرت یہی تو وہ ملعون ہے جس نے دختران پیغمبر کو لوٹا تھا میں اسے کیوں نہ معاف کر سکتا ہوں۔"

امام عالی مقام نے فرمایا: "میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔" جب جلوہ دی نے امام علی رضا کو مامون کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ امام علی رضا مامون کو اس کے قتل کی ترغیب

دے رہے ہوں گے۔

اس نے آتے ہی کہا: "امیر المؤمنین! میں نے آپ کے باب پ کی بہت خدمت کی تھی اور آپ کو ان خدمات کا واسطہ دے کر کھتا ہوں کہ میرے متعلق علی رضا کی باتوں پر عمل نہ کرنا۔"

مامون نے امام علی رضا سے کہا: "میں تو شاید آپ کی سفارش مان لیتا لیکن وہ خود ہی آپ کی بات نہ ماننے کی درخواست کر رہا ہے۔ اب میں اس کی قسم کا احترام کرتا ہوں۔"

پھر اس نے جلاں سے کما کہ اس زنزادے کو بھی اس کے دو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملکی کر دو۔ جلوہ دی بھی قتل ہو گیا۔

اس واقعہ سے یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ آل محمد اتنے بڑے کریم ہیں کہ وہ اپنے دشمن کو بھی سزا دینا پسند نہیں کرتے اور جو خاندان اپنے دشمن کے لئے بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہو تو کیا وہ اپنے ماننے والے گناہگار شیعوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟^(۱))

جس نے علیٰ کی نقلی کی

ایک بادشاہ نے دربار میں ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا جو مختلف لوگوں کی نقلی کر کے بادشاہ اور اس کے معاٹین کو بہلیا کرتا تھا۔

بادشاہ کا تعلق مذہب الحسن سے تھا اور اس کا ایک وزیر ناصبی اور بد عقیدہ تھا لیکن بادشاہ اس پر زیادہ اعتماد کرتا تھا۔

۱۔ الکتب و الالقباب ج ۲ ص ۱۳۶۔

وزیر کی گردن پر ماری اس کی گردن کٹ کر دور جا پڑی، مسخرہ بھاگ گیا۔
چند دنوں بعد بادشاہ واپس آیا تو اس نے تمام حالات سنے، اس نے حکم
دیا کہ مسخرے کو تلاش کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔
مسخرہ دربار میں پیش ہوا اور اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ
بہت ہنسا اور کہا: ”میں نے تجھے معاف کیا۔“ (۱)

جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہئے

مرحوم نراثی صاحب خزانہن بیان کرتے ہیں کہ شیخ محمد روضہ مقدسہ
کاظمین کے کلید بردار تھے اور ان سے میری ملاقات ہوتی تھی، موصوف انتہائی
دین دار انسان تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ نادر شاہ افشار کے بعد
حسن پاشا عراقی عرب کا حکمران بنا اور اس نے بغداد کو اپنادار الحکومت قرار دیا۔
ایک دن ماہ جمادی الثانی میں جبکہ اس کے دربار میں امراء اور آنندی
اور آل عثمان کے سر کردہ افراد موجود تھے، اس نے کہا: ”آپ حضرات مجھے
بتائیں کہ ماہ رب جب کی چاند رات کو ”نور باران“ کیوں کہا جاتا ہے؟“
ایک درباری نے جواب دیا: ”اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات ائمہ دین
کی قبور پر نور کی بارش ہوتی ہے اسی لئے اس شب کو نور باران کہا جاتا ہے۔“
حسن پاشا نے کہا: ”اچھی بات ہے یہاں عراق میں بہت سے ائمہ کے
مزار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ان مزارات کے خدام نے باران نور کا ضرور
مشابہہ کیا ہو گا۔“

۱۔ خزانہن نراثی۔

جب کبھی بادشاہ کہیں باہر جاتا تو اس وزیر کو اپنا قائم مقام بنانے کر جاتا۔
وزیر کو علم تھا کہ مسخرہ کا تعلق مذہب شیعہ سے ہے۔
ایک دن وزیر نے جو کہ اس وقت بادشاہ کا قائم مقام بننا ہوا تھا،
مسخرے کو بلایا اور کہا: ”آج میرے سامنے علی بن ابی طالب کی نقایل کر کے
دکھا۔“ (نحو ذ بالله)

مسخرے نے بڑی معدالت کی اور گزگڑا کر معافی کی درخواست کی، مگر
وزیر نے اپنے خبث باطن کی وجہ سے اس کا کوئی عذر قبول نہ کیا اور اسے مجبور
کیا کہ ہر قیمت پر علی کی نقایل کر کے دکھاو۔

مسخرے نے ایک دن کی مملت طلب کی، پھر جب دوسرے دن دربار
لگا ہوا تھا اور وزیر تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، اسی اثناء میں مسخرہ لباس اعراب
پہن کر اور تلوار کو کمر میں حائل کر کے دربار میں آیا۔

دربار میں آتے ہی بڑے رعب سے وزیر کو حکم دیا: ”اللہ، رسول اور
میری خلافت بلا فصل پر ایمان لاو، ورنہ تیری گردن جدا کر دوں گا۔“

وزیر سمجھا کہ مسخرہ علی کی نقل کر رہا ہے اور خوب ہنئے لگا۔

مسخرہ کچھ اور قریب آیا اور انتہائی گونج دار آواز میں اپنے پسلے الفاظ کی
تکرار کی اور تلوار کو کچھ نیام سے نکالا۔

وزیر اس کی نقایل دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنئے لگا۔

پھر مسخرہ اور آگے ہوا اور اسے کہا کہ میں تجھے دو مرتبہ کہہ چکا ہوں
کہ اللہ، رسول اور میری خلافت بلا فصل پر ایمان لاو ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔

وزیر اور زیادہ ہنئے لگا۔ اب مسخرے نے پوری تلوار نیام سے نکالی اور

رات روپنہ اطہر میں سبز کروں گا اور یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔“

میرے باپ نے کہا کہ بہتر ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے۔

میرے والدہاں سے لگلے تو ہرے پریشان تھے اور مجھ سے کہنے لگے:

”میں نے عجیب جرأت کی ہے ممکن ہے اس سے ظاہری نور مراد نہ ہو اور میں

نے اس سے قبل کبھی ظاہری نور برستا ہوا نہیں دیکھا، اب کیا ہو گا؟“

پھر مجھ سے کہنے لگے: ”پیٹا میں نے یہ الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو

ہلاکت کے حوالے کیا۔“

ماہ رجب جوں جوں قریب ہونے لگا میرے والد کی حالت اتنی ہی

خراب ہوتی گئی اور انہوں نے اپنی وصیت تیار کی اور جن لوگوں سے کچھ لینا دینا

تھا انہوں نے لیا دیا اور ان سے ان کا کھانا تک چھوٹ گیا۔ خوف کے مارے

انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، سارا دن روپنہ مبارک میں گریہ کرتے اور

راتوں کو نوافل پڑھتے اور ائمہ بدیل علمیم السلام کے ارواح طیبہ سے توسل کیا

کرتے تھے۔

آخر کار ماہ جمادی الثانی ختم ہوا اور ماہ رجب کی چاند رات ہوئی، بادشاہ

غروب آفتاب کے بعد روپنہ مبارک پر آیا اور میرے والد سے کہا: ”تمام

زادرین کو حرم سے روانہ کر دیں اور یہ شب ہم اور تم دونوں روپنہ اطہر پر سبز

کریں گے۔“

تمام زادرین کو روپنہ اطہر سے رخصت کر دیا گیا اور تمام دروازے بند

کر دیئے گئے، نماز عشاء کے بعد پاشا نے حکم دیا کہ تمام شمعیں اور فانوس سنجھا

دیئے جائیں، میرے والد نے تمام روشنیاں گل کر دیں۔

پھر اس نے کہا: ”امام ابو حنیف اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مزارات
کے مجاہروں کو دربار میں بلایا جائے۔“

جب مذکورہ مزارات کے مجاہر حاضر ہوئے تو حسن پاشا نے ان سے
کہا: ”آپ ائمہ دین کے مزاروں کے مجاہر ہیں، کیا کبھی آپ لوگوں نے رجب
کی چاند رات کو تور کی برسات کا مشاہدہ کیا ہے؟“

مجاہروں نے کہا: ”ہم نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔“

حسن پاشا نے کہا: ”حضرت موسیٰ بن جعفر“ اور حضرت جوڑا بھی اکابر
ائمہ میں سے ہیں اور جماعت روانض انہیں واجب الاطاعت قرار دیتی ہے۔

بہتر ہے کہ ہم انہیں بھی بلا لیتے ہیں اور ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔“

پھر اس نے اپنا ایک نوکر سمجھا کہ جاؤ امام جوادین کے روپنہ کے گلید
بردار کو بلا لاؤ۔

شیخ محمد کہتے ہیں کہ اس وقت میرے والد گلید بردار تھے اور میں اس
وقت میں برس کا تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ حسن پاشا کے پاس گیا۔

پاشا نے میرے والد سے سوال کیا: ”رب کی چاند رات کو نور باران
کہا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات ائمہ دین کی مزارات پر نور انشائی
ہوتی ہے تو کیا کبھی تم نے بھی نور کی برسات کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا
ہے؟“

میرے والد نے کہا: ”جی ہاں میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں کئی بار
دیکھا ہے۔“

حسن پاشا نے کہا: ”ماہ رجب شروع ہونے ہی والا ہے، میں چاند

وارد ہوا تو غلام میرے لئے ٹھنڈا شرم لے کر آیا، میں نے منہ سے لگایا تو انتہائی شیریں اور خوبصورت تھا، جب میں نے شربت پی لیا تو امام کے غلام نے مجھ سے کہا کہ امام نے فرمایا ہے کہ تم شربت پی کر مسجد میں آجائو۔

میں نے دل میں سوچا کہ میں تو حرکت کرنے سے قاصر ہوں، پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ حکم امام کی تعییل ضروری ہے، جیسے ہی میں نے حرکت کی میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تدرست پایا اور یوں محسوس ہوا کہ میں اس سے قبل جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ تمام زنجیریں یک بیک ٹوٹ گئی ہیں اور میں ان کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہوں۔

پھر میں امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلند آواز میں فرمایا: ”اب تدرست ہو اور سلامتی کے ساتھ ہمارے ہاں چلے آؤ۔“

میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ہاتھوں کو یوں دیا اور فرط عقیدت سے رونے لگا۔

آپ نے فرمایا: ”روتے کیوں ہو؟“

میں نے عرض کی: ”قربان جاؤں میں اس لئے روتا ہوں کہ میں آپ سے بہت دور ہوں اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا اور اگر طویل سفر کر کے آپ کی زیارت کا شرف حاصل بھی کروں تو بھی زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔“

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: ”فکر کی کوئی بات نہیں ہے تم ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تو یہ ہمارے شیعوں کا امتحانِ عشق ہے اور اگر تم ہم سے دور ہو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس دوری کے عادی ہیں۔“

حسن پاشا نے فاتحہ پڑھی اور ضریح کے ساتھ بیٹھ کر نمازو ادعیہ میں مصروف ہو گیا۔ میرے والد بڑے بے چین تھے وہ بار بار اپنے رخسار زمین پر ملتے اور نور کی بر سات کے لئے دعا مانگتے، اسی طرح سے دو گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک چھت شکافتہ ہوئی اور نور کی لبریں قبر منور پر چکنے لگیں اور روشنی اتنی تیز اور شدید تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سینکڑوں سورجوں کی روشنی قبر منور پر پڑ رہی ہے۔

یہ منظر دیکھ کر حسن پاشا اٹھا اور بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے لگا اور میرے والد کے چہرے کو چوم کر کہا: ”واقعی تمہارا مولا اس قابل ہے کہ انسان اس کی خدمت کرے۔“

پھر اس نے میرے والد اور دوسرے تمام خدام کو بہت سا انعام دیا اور نصف شب کے بعد واپس چلا گیا۔ (۱)

دوستوں کی ارادت اور ائمہ کی توجہ

محمد بن مسلم کا شمار ثقہ رواۃ میں ہوتا ہے اور وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام کے اکابر صحابہ میں سے تھے۔

ایک مرتبہ وہ کوفے سے امام باقر علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے مدینہ روان ہوئے، ان کا بیان ہے کہ راستے میں میری طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور میں حرکت کرنے کے قابل نہ ہا۔

جب میں مدینہ پہنچا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے مہمان خانے میں

۱۔ خزانہ نراثی ص ۷۲۲۔

پھر آپ نے محمد بن جباب کو حکم دیا کہ وہ یونس بن یعقوب کی نماز
جنازہ پڑھائیں۔

حکم کے مطابق محمد بن جباب نے یونس کی نماز جنازہ پڑھائی اور یونس
کو جنت البقع میں دفن کر دیا گیا۔

محمد بن ولید کا بیان ہے کہ میں ایک دن یونس بن یعقوب کی قبر پر بیٹھا
فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ قبرستان کا متولی میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ قبر کس کی ہے؟
مجھے امام علی رضا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں چالیس دن تک اس قبر پر
پانی چھڑکوں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے جنازہ کی
چارپائی میرے پاس ہے اور جب بھی بنی ہاشم میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے تو
رات کے وقت چارپائی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ جس
شب کو اس مؤمن کی وفات ہوتی تو اس رات چارپائی میں حرکت پیدا ہوتی تھی
اور آواز پیدا ہوتی تھی۔ میں آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا اور حیران تھا کہ بنی
ہاشم میں سے کوئی یہمار نہیں ہے پھر نجاتے چارپائی سے یہ آواز کیوں پیدا ہو
رہی ہے۔

جب صبح ہوتی تو امام علی رضا کے غلام آئے اور مجھ سے چارپائی طلب
کی میں نے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا جو کہ عراق
میں رہائش پذیر تھا، وفات پا گیا۔ (۱)

کیونکہ میرے جد اجد امام مظلوم علیہ السلام ہم سے بہت دور فرات کے
کنارے مدفون ہیں۔

اور تمہارا یہ کہنا کہ تمہیں طویل سافرت طے کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی
ایک حقیقت ہے کہ مؤمن جب تک خدا کے جوار رحمت میں نہ پہنچ جائے وہ
مسافر ہی رہتا ہے۔

اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو اور ہمیشہ ہماری
زیارت کے خواہش مند ہو تو اللہ تمہارے دل سے آگاہ ہے اور وہ تمہیں اس والو
محبت کی جزادے گا۔ (۱)

آل محمد دوستوں کی موت پر کیا کرتے ہیں؟

جب یونس بن یعقوب کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی تو امام علی رضا
علیہ السلام نے اس کے لئے کفن اور کافور بھیجا اور اپنے غلاموں اور اس کے والد
کو حکم دیا کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔

پھر آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا
غلام تھا اور عراق میں سکونت پذیر تھا، تم اس کے جنازے کو جنت البقع لے
جانا اور اگر اہل مدینہ اسے عراقی سمجھ کر دفن کرنے کی اجازت نہ دیں تو ان
سے کہنا کہ یہ امام جعفر صادق کا ایک دوست تھا جو کہ عراق میں رہتا تھا۔ اگر
اہل مدینہ نے اسے دفن نہ ہونے دیا تو ہم بھی کسی مدنی کو اجازت نہیں دیں گے
کہ وہ اپنے غلاموں کو جنت البقع میں دفن کر سکیں۔

آپ پر سلام کیا۔

آپ نے انہیں نہ تو سلام کا جواب دیا اور نہ ہی انہیں بیٹھنے کیلئے کہا۔
انہوں نے عرض کی: ”مولا! آپ نے ہم پر یہ کیا ستم کیا ہے کہ
پورے دو ماہ تک ہمیں ملاقات کی اجازت نہ دی اب بتائیں ہماری کیا تو قیر باقی
رہ گئی ہے؟“

آپ نے یہ آیت تلاوت کی: ”ما اصحابکم من مصیبة فاما کسبت
ایدیکم و يعفو عن کثیر۔ (تمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے
باتھوں کی پیدا کردہ ہوتی ہے اور اللہ بہت ہی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔)
میں نے اس کام میں خدا اور پیغمبر اور علی اور اپنے آبائے طاہرین کی
پیروی کی ہے، تم پر یہ ہستیاں ناراضی ہیں اسی لئے میں بھی تم پر ناراض ہوں۔
انہوں نے عرض کی: ”مولا! آپ یہ بتائیں کہ ہم سے کونسی غلطی
سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں؟“

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم
شیعان علی ہو، تم پر افسوس، کیا تمیں علم نہیں ہے کہ علی کے شیعہ حسن اور
حسن اور ابوذر، سلمان، مقداد اور عمار اور محمد بن افی بجز ہیں۔

جس نے پوری زندگی میں حضرت علیؑ کے کسی فرمان پر عمل نہ کیا ہو
وہ علیؑ کا شیعہ کھلانے کا مستحق نہیں ہے اور تم نے شیعان علی ہونے کا دعویٰ کیا
جبکہ تم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ علیؑ کے احکام کی نافرمانی کی ہے اور بہت
سے واجبات میں تم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے اور تم نے اپنے دینی بھائیوں کے
حقوق کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا اور جہاں ترقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی تم ترقیہ

دختر فاطمہ زہرا (علیہا السلام) کی برکت سے میری امت کے بہت سے مردوں
زن آتشِ وزخ سے آزاد ہوں گے۔“ (۱)

جس دور میں امام ہاشم حضرت علی رضا علیہ السلام ولی عمد تھے تو ایک
گروہ ان سے ملنے کے لئے دروازے پر آیا اور کہا کہ امام علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کرو کہ شیعان علی کا ایک گروہ آپ کی زیارت کا خواہش مند ہے۔

آپ نے فرمایا: ”میں مصروف ہوں تم واپس چلے جاؤ۔“

دوسرے دن وہ گروہ پھر آپ کے دروازے پر آیا اور انہوں نے دربان
سے کہا: ”مولاسے کمیں کہ شیعان علی کا ایک گروہ آپ سے ملاقات کا خواہش
مند ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”انہیں واپس بھج دو۔“

الغرض مذکورہ گروہ پورے دو ماہ تک آپ کے دراطر پر روزانہ آتارہا
اور آپ انہیں روزانہ واپس کرتے رہے۔

دو ماہ بعد اس گروہ نے ایک دن دربان سے کہا: ”آپ مولا کی خدمت
میں عرض کریں کہ آپ نے ہمیں دو ماہ سے محروم زیارت کیا ہوا ہے، اب
دشمن ہم پر بنتے ہیں، اگر ہم اسی طرح سے واپس چلے گئے تو لوگ ہم سے مذاق
کریں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔“

تب آپ نے ان کو باریابی کی اجازت خخشی، وہ لوگ داخل ہوئے اور

کے قابل ہو۔“

پھر آپ نے دربان سے فرمایا کہ ان کی حاجات پوری کرو اور انہیں زاد راہ اور بہت سے تخفہ جات دے کر رخصت کرو۔ (۱)

تائید مزید

ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”مولا! میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”خدا کا خوف کر اور غلط دعویٰ نہ کر، ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی برائی اور جلوں سے پاک ہوں۔ البتہ اس کی وجہے تھے یہ کہنا مناسب ہے کہ میں آپ کا محبت اور دوست ہوں۔“

ایک اور شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: ”مولا! میں آپ کا خاص شیعہ ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”تو کیا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”وَإِنْ مَنْ شَيْعَهُ لَا بِرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ“ (اور یقیناً اس کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر پیش ہوئے)۔

اگر تیرا قلب ابراہیم قلب کی طرح ہے تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے۔ اگر تیرا دل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے تو پھر تو ہمارے دوستوں میں سے ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور پھر بھی تو دعویٰ کرتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ

کرتے ہو اور جمال ترقیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ترقیہ نہیں کرتے۔

اگر تم یہ سمجھتے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی دوست ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں تو میں تمہاری بات کو رد نہ کرتا، مگر تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور اپنے عمل سے اس دعویٰ کو اگر تم ثابت نہ کر سکے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہاں۔ اگر رحمت خدا تمہیں اگر نجات دلائے تو اور بات ہے۔“

انہوں نے عرض کی: ”فرزند رسول! ہم اپنے سابقہ الفاظ واپس لیتے ہیں اور اس کے لئے بارگاہ احادیث میں توبہ واستغفار کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے تعلیم دی ہے ہم وہی الفاظ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دوستوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری کرتے ہیں۔“

یہ الفاظ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”مرحباً بكم يا اخوانى واهل ودى. (اے میرے برادران و دوستان تمہیں خوش آمدید) آگے آجائو اور مزید آگے آجائو اور میرے پہلو میں اگر بیٹھو۔

جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے دربان سے کہا: ”یہ کتنی مرتبہ دروازے پر بغرض سلام آئے تھے؟“

دربان نے کہا: ”مولا! یہ سانچھ مرتبہ آئے تھے۔“

آپ نے فرمایا: ”تم میری طرف سے انہیں سانچھ مرتبہ سلام کرو۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”تم نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور چونکہ تم لوگ ہم سے محبت کرتے ہو اسی لئے تم احترام

ضرور پوچھا جائے گا۔

اس آیت مجیدہ میں "نعم" کے متعلق باز پر اس کا اعلان کیا گیا ہے کیا اس "نعم" سے مراد محمدؐ اپنی ہے؟

امام علی رضا علیہ السلام نے صد اسے کر فرمایا: "ثُمَّرَدْ تِمْ كَتَتْ هُوْ كَهْ
"نعم" سے مراد محمدؐ اپنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نیند ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد اچھی روٹی ہے۔

میرے والد ماجد علیہ السلام نے یہی سند اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برآ کریم و رحیم ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا میزبان اپنے مهمان کو روٹی اور محمدؐ پانی کھلا پلا کر اس سے اس کا سوال نہیں کرتا تو منعم حقیقی اپنے بندوں سے روٹی پانی کا سوال کیسے کرے گا؟ یہ اس کے حسن تفضل کے خلاف ہے۔

ولکن النعیم حبنا اہل الیت و موالاتنا یسال اللہ عنہ بعد التوحید و بنوۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

(نعم ہم الہیت کی محبت و ولایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توجیہ اور رسول کی نبوت کے بعد لوگوں سے اس کا سوال کرے گا۔)

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آئئے طاہرین علیہم السلام کی سند سے جتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: "يَا عَلِيٌّ! أَنَّ أَوَّلَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ
بعد موته شہادۃ ان لا اللہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و انک ولی المؤمنین بما جعله اللہ و جعلته فمن اقرب بذلك و كان مقعده صار الى النعیم

تجھے فانج یا جذام کی بھاری میں بتلا کرے گا جو آخری دم تک تیرے ساتھ رہے گی۔"

امام محمد باقر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے پر فخر کیا تو دوسرے نے کہا: "تو مجھ پر کیسے فخر کر سکتا ہے جبکہ میں شیعان آل محمدؐ میں سے ہوں۔"

یہ سن کر امام عالی مقام نے اسے فرمایا: "رب کعبہ کی قسم! تجھے اس پر کوئی فخر حاصل نہیں ہے اور تو نے اپنی نسبت میں بھی دروغ گوئی سے کام لیا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو اپنی دولت کو اپنے لئے خرچ کرنا بہتر سمجھتا ہے یا اپنے مؤمن دوستوں کے لئے؟"

اس نے عرض کی: "میں اپنی دولت کو اپنی ذات پر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔"

آپ نے فرمایا: "پھر تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تم ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو البتہ یہ کوئی تم ہمارے محبت ہو اور ہماری محبت کی وجہ سے امید نجات رکھتے ہو۔" (۱)

نعت حقیقی کیا ہے؟

ابراهیم بن عباس کاتب کہتے ہیں کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک فقیر نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے:
ثُمَّ لَتَسْتَلِنَ يَوْمَنْدَعْنَ النَّعِيمِ. پھر اس دن تم سے نعت کے متعلق

۱۔ یہ روایت خدار الانوار ج ۱۵ حصہ اول ص ۱۳۲، ۱۳۳ سے مانوذ ہیں۔

الذى لازوال له.

(يا علی ! مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تمہاری ولایت کا سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے علی کی ولایت کو اس طرح سے تسلیم کیا ہے جیسا اللہ نے اس کے متعلق حکم نازل کیا اور جیسا میں نے پہنچایا؟ اور جو اس کا معرفت ہو گا اور اس کا اقرار کرنے والا ہوا تو وہ اس نعیم بدی میں پہنچ جائے گا جسے زوال نہیں آئے گا۔) (۱)

چند روایات

عن ابی اسامۃ زید الشحام قال: قلت لابی عبد الله اسمی فی تلك الاسماء يعني فی کتاب اصحاب اليمین قال نعم و عنہ ایضاً قال: قال لی ابی عبد الله کم اتی لک سنة قلت کذا وكذا قال یا اسامۃ ابیشر فانت معنا وانت من شیعتنا، اما ترضی ان تكون معنا قلت بلى یاسیدی فكيف لی ان اکون معکم فقال یا زید ان الصراط الینا وان المیزان الینا وحساب شیعتنا الینا والله یا زید انی ارحم بکم من انفسکم والله لکانی انظر اليک والی الحرش بن مغیرة النضری فی الجنة فی درجة واحدة.

”لکنی والا نقاب ح اص ۲“

ابوسامہ زید شحام کتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ”مولا! کیا میر امام ”اصحاب یمین“ میں ہے؟“

یادیج المودۃ ح اص ۱۱۱۔

آپ نے فرمایا: ”ہا۔“

زید شحام کتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا:

”اس وقت تیری عمر کتنی ہے؟“

میں نے عرض کی: ”اٹنے سال ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”تجھے بشارت ہو تو ہمارے ساتھ ہو گا اور ہمارے شیعوں میں سے ہے اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہو؟“

میں نے عرض کی: ”مولا! بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ رہوں؟“

آپ نے فرمایا: ”زید! بے شک صراط، قیامت اور میزان اعمال ہمارے اختیار میں ہو گا اور ہمارے شیعوں کا حساب بھی ہمارے ہاتھ میں ہو گا۔

زید! خدا کی قسم میں تم پر تم سے بھی زیادہ میریان ہوں، میں تجھے اور حرش بن مغیرہ نظری کو جنت کے ایک درجے میں دیکھ رہا ہوں۔“

عن الطیالسی عن العلا عن محمد قال سالت ابا جعفر عن قول الله عزوجل: فاولئک يidel الله سیماتهم حسنات و كان الله غفوراً رحیماً.

فقال (ع): یوتی بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه احدا من

الناس فيعرفه ذنبه حتى اذا اقر بسيئاته قال الله عزوجل للكتبة بدلوها حسنات واظهروها للناس فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة ثم يامر الله به الى الجنة فهذا تاویل الآية فھی في المذنبين من

شیعتنا خاصة.

ومن كانت مظلومته فيما بينه وبيننا كان احق من عفا وصفح.

"خار الاتوار ح ۱۵ ج ۲ ول ۱۲۸"

امام علي رضا عليه السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول کریمؐ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: "ہمارے خاندان کی محبت گناہوں کو محو کر دیتی ہے اور نیکیوں کو دو گناہ کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کے محبوبوں کی ان غلطیوں کو جو دوسرے لوگوں کے حق میں ان سے صادر ہوئی ہوں گی، کی خود تلافی فرمائے گا۔ مگر ان غلطیوں کی تلافی نہیں کرے گا جو انہوں نے مؤمنوں پر کی ہوں گی اور اللہ قیامت کے دن ان کی برائیوں کو حکم دے گا کہ تم نیکیاں عن جاؤ۔"

اسی اسناد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے شیعوں کا حساب خود لیں گے اور جس نے ایسا گناہ کیا ہوگا جس کا تعلق اس سے اور اس کے خدا کے ساتھ ہوگا تو اللہ ہمیں اس کے متعلق اختیار دے گا۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ اسے رد نہیں کرے گا اور جس نے ایسا گناہ کیا ہوگا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا تو ہم صاحب حق سے معافی کی درخواست کریں گے وہ معاف کر دے گا اور جس نے ایسا گناہ کیا ہو جس کا تعلق اس سے اور ہم سے ہوگا تو ہم عفو وغیرہ کے زیادہ حقدار ہیں۔

عن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله انى اخالط الناس فيكثرا عجبى من اقوام لا يتولونكم ويتوتون فلانا و فلانا لهم امانة و صدق و وفاء و اقوام يتولونكم ليس لهم تلك الامانة ولا الوفاء والصدق قال فاستوى جالسا و اقبل على كالغضبان ثم قال لا دين لمن دان بولاية امام جائز ليس من الله،

محمد کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے "فاؤنلک یبدل اللہ سیناهم حسنات۔ (سورہ فرقان آیت ۷۰) تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا" کی آیت مجیدہ کی تفسیر پڑھی۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "قیامت کے دن مؤمن کو حساب کے موقف میں لا یا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لے گا اور لوگوں میں سے کسی کو اس کے حساب کے متعلق مطلع نہیں کرے گا، اللہ اسے اس کے گناہ یاد دلانے گا، وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ لکھنے والوں کو حکم دے گا کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے اور اس کی نیکیاں لوگوں میں ظاہر کی جائیں۔

لوگ اس کی نیکیاں دیکھ کر کہیں گے : "اس شخص کو دیکھو جس نے ایک بھی برائی نہیں کی۔"

پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت جانے کا حکم دے گا تو یہ آیت مجیدہ کی تاویل ہے اور یہ ہمارے گناہگار شیعوں کے لئے مخصوص ہے۔

عن الرضا(ع) عن ابیه قال: قال رسول اللہ جبنا اهل البيت يکفر الذنوب ويضاعف الحسنات وان اللہ تعالیٰ یتحمل عن محبينا اهل البيت ماعليهم من مظالم العباد الا ما كان منهم على اضرار و ظلم للمؤمنين فيقول للسيئات كونی حسنات.

ایضاً عن الرضا(ع) عن ابیه قال: قال رسول اللہ اذا كان يوم القيمة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلومته فيما بينه وبين الله عزوجل حكمتنا فيها فاجابنا ومن كانت مظلومة فيما بينه وبين الناس استورهيناه فوهبت لنا

نہیں بنا، ان کا کوئی دین نہیں ہے اور جو اللہ کے مقرر کردہ امام عادل کی پیروی کریں ان کے لئے کوئی عتاب اور سرزنش نہیں ہے۔“

میں نے کہا: ”تو مقصد یہ ہے کہ ان کا دین نہیں ہے اور ان کے لئے کوئی سرزنش نہیں؟“

آپ نے فرمایا: ”جی ہاں! ان کا دین نہیں ہے اور ان کے لئے سرزنش نہیں ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”تو کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی ”الله ولی الذین امنوا بخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔

یعنی اللہ انہیں گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر توبہ و مغفرت کے نور میں لے آتا ہے اور انہیں نور توبہ و مغفرت کی ہدایت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ امام عادل سے دوستی رکھتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”والذین کفروا اولیانهم الطاغوت يخرجونهم من النور الی الظلمات. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت کفر میں کافر کے پاس نور ہوتا ہی کب ہے کہ طاغوت اسے نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جائے؟

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان ظالم پیشواؤں کو تسليم کرتے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا، اسی وجہ سے طاغوت انہیں نور اسلام سے نکال کر کفر و گمراہی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں اور ان کیلئے دوزخ کی سزا ہے۔

ولا عتب على من دان بولاية امام عدل من الله قال قلت لا دين لا ولنك ولا عتب على هؤلاء فقال نعم لا دين لا ولنك ولا عتب على هؤلاء ثم قال: اما تسمع لقول الله (الله ولی الذین امنوا بخرجهم من الظلمات الى النور) يخرجهم من ظلمات الذنوب الى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل امام عادل من الله وقال (والذین كفروا اولیانهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات) قال قلت اليس الله عنى بها الكفار حين قال والذین كفروا قال فقال واى نور للكافر وهو كافر فاخرج منه الى الظلمات انما عنى لله بهذا انهم كانوا على نور الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائز ليس من الله خرجوا بولايتهم ايام من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فواجب لهم النار مع الكفار فقال اولنك اصحاب النارهم فيها خالدون.

”حوار الانوار ج ۱۵ حصہ اول ص ۱۲۹“

ابی یعقوب کنتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: ”مولا! میں بہت سے لوگوں سے راہ و رسم رکھتا ہوں اور میں ان لوگوں کو دیکھ کر جیران رہ جاتا ہوں جو آپ کی ولایت کو تسليم نہیں کرتے اور فلاں و فلاں سے محبت کرتے ہیں مگر ان میں مانانت اور سچائی اور وفا نظر آتی ہے اور اس کے بر عکس مجھے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو آپ سے ولارکھتے ہیں مگر ان میں وہ مانانت اور وفا اور سچائی و کھاتی نہیں دیتی۔

میری یہ بات سن کر امام عالی مقام انھ کر بیٹھے اور غصبنک شخص کی طرح مجھے دیکھ کر فرمایا: ”وہ لوگ جو ظالم پیشواؤں کی پیروی کریں جنہیں اللہ نے پیشواؤ

نژدیک بدترین لوگ کون ہیں؟“

ساعہ نے کہا: ”فرزند رسول! میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کی نظر میں ہم ہی بدترین لوگ ہیں، لوگ ہمیں راضی اور کافر کرتے ہیں۔“

لام علیہ السلام نے میری جانب دیکھا اور فرمایا: ”اس وقت کیا حالت ہو گی جب تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور انہیں دوزخ کی جانب لے جایا جائے گا؟ اس وقت وہ تمہاری طرف جانب دیکھ کر کہیں گے ”مالنا لانری رجالا کنا نعدہم من الاشوار۔ (سورہ مل آیت ۲۲) ہمیں کیا ہوا ہے ہمیں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے جنہیں ہم اشوار سمجھتے تھے۔“

ساعہ ایڈر کھوت میں سے جب بھی کسی سے برائی سرزد ہو گی تو ہم قیامت کے دن اپنے قدموں سے چل کر خدا کے حضور جائیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ ہماری شفاعت قبول کرے گا۔

خدا کی قسم! تم میں سے دس افراد بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم! تم میں سے پانچ افراد بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم! تم میں سے تین افراد بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم! تم میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تم جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کی جدوجہد کرو اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو غم و اندوہ میں بٹلا کرو۔

عن حذیفة بن منصور قال كنت عندابي عبد الله اذا دخل عليه رجل فقال
جعلت فداك ان لم اخالا يؤتى من محبتكم و اجلال لكم و تعظيمكم غير انه
يسرب الخمر فقال الصادق اما انه لعظيم ان يكون محبا بهذه الحالة

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اوْلُنَكَ اصحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَهُنَّ
لَوْگُ دُوْزُخٍ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن ابیہ قال: دخل سماعہ بن مهران علی الصادقؑ فقال يا سماعہ من شر الناس قال نحن يابن رسول الله قال فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم استوى جالسا و كان متکنا فقال يا سماعہ من شر الناس عند الناس فقلت والله ما كذبتك يا بن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لأنهم سموا نا كفارا و رافضة فنظر الى ثم قال كيف بكم اذا سبق بكم الى الجنة وسيق بهم الى النار فينظرون اليكم ويقولون (مالنا لانری رجالا کنا نعدہم من الاشوار) يا سماعہ بن مهران انه من اساء منکم اسانہ مثینا الى اللہ تعالیٰ يوم القيمة باقادامنا فتشفع فيه فتشفع والله لا يدخل النار منکم عشرہ رجال والله لا يدخل النار منکم خمسة رجال والله لا يدخل النار منکم ثلاثة رجال والله لا يدخل منکم رجل واحد فتنافسوا في الدرجات واکمدوا عدوکم بالورع.

”حال الانوار ج ۱۵ حصہ اول ص ۳۳“

محمد بن سلیمان دیلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ساعہ بن مهران لام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لام علیہ السلام نے فرمایا: ”ساعہ!
بدترین لوگ کون ہیں؟“

ساعہ نے کہا: ”مولا! ہم ہیں۔“
ساعہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس وقت لیئے ہوئے تھے فوراً شہ بیٹھے اور غصے کی وجہ سے آپ کے رخسار سرخ ہو گئے اور دوبارہ فرمایا: ”ساعہ! لوگوں کے

ولكن الا انكم بشر من هذا. الناصب لنا شر منه وان ادنى المؤمنين وليس فيهم دني يشفع في مائتى انسان ولو ان اهل السموات السبع والارضين السبع والبحار السبع شفعوا في ناصب ماشفعوا فيه. الا ان هذا لا يخرج من الدنيا حتى يتوب او يتبله اللہ بلاء في جسده فيكون تحبيطا لخطاياه حتى يلقى اللہ عزوجل لاذنب له. ان شيعتنا على السبيل الا قوم ان شيعتنا لفی خیر ثم قال ان ابی کان کثیرا مايقول احباب حبیب ال محمد وان کان مرھقا ذیالا و بعض بغیض ال محمد وان کان صواما قواما.

"حدائق التواریخ ۱۵ ص ۱۳۵"

حدیقه عن منصور کتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیٹھا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی: "میں آپ پر قربان جاؤں، میرا ایک بھائی ہے جسے شیطان آپ کے خاندان کی محبت، احترام اور تعظیم سے روک نہیں سکا البتہ اس میں ایک عیب ہے وہ شراب پیتا ہے۔" امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "واقعی یہ بات بہت بڑی ہے کہ ہمارے محبت کی یہ حالت ہو، کیا میں تمہیں اس سے بدتر شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟" ہمارے خاندان کا دشمن اس سے بدتر ہے۔ یاد رکھو ایک پست ترین مؤمن اور مؤمنوں میں ویسے بھی کوئی پست نہیں ہوتا وہ بھی دوسرا فراہمی شفاعت کر سکے گا۔ اگر سات آسمان اور سات زمینیں اور سات سمندر مل کر بھی ہمارے دشمن کی شفاعت کریں تو بھی ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور تم نے جس شخص کا تذکرہ کیا ہے یہ دنیا چھوڑنے سے قبل یا تو توبہ کر لے گا یا اللہ اسے کسی بسمانی

اذیت میں بیٹلا کرے گا جو اس کے گناہوں کا کفارہ عن جائے گی اور جب وہ خدا کے حضور حاضر ہو گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہو گا۔ ہمارے شیعہ صراط مستقیم پر ہیں اور ہمارے شیعوں کا انجام خیر ہو گا۔"

پھر آپ نے فرمایا: "میرے والد ماجد علیہ السلام یہیش فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد علیم السلام کے دوست سے دوستی رکھ اگرچہ وہ فقط خوب اور مشکر کیوں نہ ہو اور آل محمد علیم السلام کے دشمن سے دشمنی رکھ اگرچہ وہ روزہ روزہ دار اور شب زندہ دار کیوں نہ ہو۔"

قال ابو عبدالله^{علیہ السلام} ابلغ موالينا عنا السلام و اخبرهم انا لانعني عنهم من الله شيئا لا يعمل وانهم لن ينالوا ولا يتنا الا بعمل او ورع وان اشد الناس حسرة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره.

"حدائق النور ج ۲ ص ۲۸"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور انہیں یہ بتاؤ کہ ہم انہیں خدا کی جانب سے ہرگز بے نیاز نہیں کر سکتے مگر عمل کے ساتھ اور ہماری ولایت کو پرہیز گاری اور عمل صالح کے بغیر وہ ہرگز حاصل نہ کر سکیں گے اور قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ حسرت و ملال کا شکار ہو گا جو نیک کام کی تعریف کرے اور پھر اس کے خلاف عمل کرے۔"

دین میں استقامت

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم
الملائكة. (سورة فصلت آیت ۳۰)

”بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے،
پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے
نازل ہوتے ہیں۔“

استقامت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سبقت اسلام کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد میں بلال
عن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ وہ بنی هیجع کے غلام
زادوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بلال
لیعن انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا۔ گرم ریت
اور دیکھتے ہوئے انہاروں پر انہیں لٹایا جاتا تھا۔ ان کی پشت گرمی کی وجہ سے جل
جائی تھی۔

ابو جمل ان سے کہتا تھا کہ محمدؐ کا دین چھوڑ دے۔ مگر وہ جواب میں
ہمیشہ کہتے تھے: ”احد، احد۔ یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔“

ایک دن بلالؐ کو اذیت دی جا رہی تھی اور وہ زبان سے احد، احد کا
نغمہ متاثر بلند کر رہے تھے کہ وہاں سے ورقہ بن نوافل کا گزر ہوا، وہ بلالؐ کی
اس جرأت ایمانی سے بہت متاثر ہوا اور کہا: ”بلالؐ! اگر اس حالت میں تو مر گیا
تو ہم تیری قبر کو سوز و گداز اور نالوں کا مقام قرار دیں گے۔“

ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے
ملاقات کی اور فرمایا: ”اگر میرے پاس کچھ دولت ہوتی تو میں بلالؐ کو اس کے
مالک سے خرید لیتا۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عباس بن عبدالمطلبؓ سے درخواست کی کہ وہ بلالؐ
کو ان کے لئے خرید کریں۔

عباسؓ، بلالؐ کی مالک عورت کے پاس گئے اور بلالؐ کی خریداری کے
لئے اس سے رابطہ کیا۔

عورت نے کہا: ”آپ اسے مت خریدیں یہ خبیث اور بد سیرت غلام
ہے۔“

عباسؓ دوسرے دن پھر بلالؐ کی خریداری کے لئے اس عورت کے
پاس گئے، آخر کار عورت نے بلالؐ کو فروخت کر دیا۔

عباسؓ، بلالؐ کو خرید کر ابو بکرؓ کے پاس لے گئے۔ (۱) حضرت ابو بکرؓ نے
بلالؐ کو آزاد کر دیا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلالؐ کو اپنا مؤذن

۱۔ اسد الغائب ج ۱ ص ۲۰۶۔

مقرر کر دیا۔

ایک مرتبہ چند لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ بلالؓ کا الجہ درست نہیں ہے وہ شین کو سین کہتے ہیں۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "سین بلالؓ شین عندالله۔ (بالاً کی زبان سے تکلی ہوئی سین اللہ کی نظر میں شین ہے۔)"

حضرت بلالؓ، حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے مگر اس کے باوجود وہ حضرت علیؑ کا زیادہ احترام کرتے تھے۔

کسی نے بلالؓ کو طعنہ دے کر کہا: "تجھے آزاد تو ابو بکرؓ نے کیا لیکن تو علیؑ کا زیادہ احترام کرتا ہے۔"

لالؓ نے کہا: "میں علیؑ کا اس لئے زیادہ احترام کرتا ہوں کہ علیؑ کا مجھ پر ابو بکرؓ کی بہ نسبت زیادہ حق ہے کیونکہ ابو بکرؓ نے مجھے غلامی اور تکلیف سے نجات دلائی ہے اگر ابو بکرؓ مجھے اس غلامی سے نجات نہ دلاتے تو میں اللہ کی راہ میں صبر کرتا اور اذیت کی وجہ سے مر جاتا اگر ایسا ہوتا تو میں جنت میں چلا جاتا اور علیؑ نے مجھے بدی عذاب اور دوزخ سے نجات دلائی ہے کیونکہ علیؑ کی دوستی اور محبت بہشت بریں کا سبب ہے اور نعمت جاودائی کی موجب ہے۔"

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جن لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت بلالؓ پیش تھے۔

ایک دن حضرت عمرؓ نے حضرت بلالؓ کا گریبان پکڑ کر کہا: "بالا!"

جس نے تجھے آزاد کیا تو نے اس کی بیعت نہیں کی؟"

بالاؓ نے بے دھڑک ہو کر کہا: "اگر ابو بکرؓ نے مجھے اللہ کی خوشنودی کے لئے آزاد کیا تھا تو وہ مجھے اپنے لئے کچھ نہیں کہے گا اور اگر اس نے مجھے کسی اور کی خوشنودی کے لئے آزاد کیا تھا تو میں آج بھی اپنے آپ کو اس کی غالی میں دے دیتا ہوں وہ جو چاہے مجھ سے سلوک کرے اور جہاں تک بیعت کرنے کا تعلق ہے تو جسے پیغمبر خدا نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، میں اس کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کر سکت۔ علیؑ کی بیعت قیامت تک ہماری گردون پر باقی ہے۔"

یہ سن کر حضرت عمرؓ، بلالؓ پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں سخت سوت کہا اور حکم دیا کہ تم ہمارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے۔

حضرت بلالؓ یہ حکم سن کر مدینہ کی رہائش ترک کر کے شام چلے گئے۔ (۱)

﴿استقامت خباب رضي الله تعالى عنه﴾

حضرت خبابؓ عن الارات سابقین اولين میں سے تھے اور وہ کفار مکہ میں سے ایک عورت کے غلام تھے۔

جب خبابؓ مسلمان ہوئے تو کفار مکہ انہیں اذیتیں دینے لگے۔

پھر وہ پر آگ جائی تھی اور جب پھر اچھی طرح سے گرم ہو جاتے تو انہیں ان پھروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ خبابؓ عن الارات کا گوشت پھروں پر بھیں

۱۔ سفیہہ المدارج اص ۲۰۳۔

جاتا تو انہیں وہاں سے اٹھایا جاتا تھا۔

خباب کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے میں نے آپ سے کفار کی ایذار سائیوں کی شکایت کی اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمیں ان ظالموں کی ایذار سانی سے نجات دلائے اور ہمیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔“

میری یہ بات سن کر آپ فوراً انھوں نے بیٹھے اور آپ کا چڑھنے سے سرخ تھا اور فرمایا: ”تم سے جو لوگ پسلے گزرے ہیں وہ ان تمام اذیت رسانیوں پر صبر کرتے تھے۔ کفار ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کے لئے ان کے سامنے قبریں کھو دی جاتی تھیں، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، لوہے کی بنی ہوئی کنگھیاں ان کے گوشت میں داخل کی جاتی تھیں اس کے باوجود وہ اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی قوت دے گا کہ انسان سوار ہو کر تھا صنعتاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہ ہو گا، تم جلد بازی کرتے ہو اور صبر سے کام نہیں لیتے۔“

خباب لوباد تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔

خباب کی ماں کو اس کی خبر ہوئی اس نے لوہے کی سلان خرم کر کے خباب کے سر کو داغا۔ خباب نے اپنی ماں کی شکایت حضور اکرمؐ کے پاس کی۔ آپ نے اس عورت کو بد دعا دی۔

اس عورت کے سر میں شدید درد ہوا اور درد کی شدت سے وہ کہتے کی طرح بھونکنے لگی۔ اس نے جتنا بھی علاج کر لیا کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر درد سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو تو لوہے کی سیخ گرم کر کے سر کو داغ دلاؤ۔

عورت نے خباب کو بلا کر کہا کہ لوہے کی سیخ گرم کر کے میرے سر پر داغ لگاؤ۔ خباب نے ایسا کیا تو اسے درد سے سکون محسوس ہوا۔ مگر چند دنوں کے بعد پھر درد کا دورہ پڑا غریضہ خباب نے کہنی مرتبہ اس کے سر کو میتوں سے داغا۔

ایک دن عمر بن خباب نے خباب سے پوچھا: ”مشرکین تجھے کیسی اذیت دیتے تھے؟“

خباب نے یہ سن کر اپنی پشت سے قیص ہٹائی اور کہا: ”تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔“

جب حضرت عمرؓ نے خباب کی جملی ہوئی پشت دیکھی تو بہت متعجب ہوئے اور کہا: ”خدا کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی جملی ہوئی کسی کی پشت نہیں دیکھی۔“

خباب نے کہا: ”مشرک آگ کے دیکھتے ہوئے انگاروں پر مجھے لانا دیتے تھے اور جب تک انگارے نہ ہوتے تھے مجھے ان پر لٹائے رکھتے تھے۔“⁽¹⁾

انھی خباب کا پیٹا عبد اللہ بن خباب امیر المؤمنین علیہ السلام کے مشہور

کرنا چاہئے تھا تمہارا یہ عمل فساد فی الارض ہے۔ (۱)

﴿كَيْفَ يُنْهَا﴾ ایک معلم قرآن سے کیا سلوک کیا گیا؟

خیبِ بن عدیؑ عن مالکؓ ان دس افراد میں سے ایک ہیں جنہیں سریہ
حراء الاسد کے بعد سریہ رجع کے لئے بھجا گیا تھا۔
چند افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی
کہ انہیں چند صحابی ساتھ دیجے جائیں جو لوگوں کو قرآن و اسلام کی تعلیم دیں۔
رحمۃ الملائیںؑ نے دس افراد کو بھجا، جن لوگوں نے معلمین قرآن کی
درخواست کی تھی انہوں نے غداری کی اور ان دس افراد کو پکڑ لیا جن میں سے
آخر افراد کو موقع پر شہید کر دیا گیا اور خیبِ بن عدیؑ اور زید بن دشہؓ کو قید کر
کے مکہ لے گئے اور وہاں جا کر ان دونوں کو فروخت کر دیا۔
خیبؓ ایک مدت تک قریش کی قید میں رہے۔ پھر قریش نے ان کے
قتل کا ارادہ کیا۔ خیبؓ کو قتل کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر لے آئے اور
جب انہوں نے قیدی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے قاتلوں سے
درخواست کی کہ مجھے دور رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔
اجازت ملی۔ انہوں نے دور رکعت نماز ادا کی اور پھر کفار سے کہا: ”خداء
کی قسم میں نے آج تک ایسی مختصر نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، آج میں نے اتنی
مختصر نماز صرف اس لئے پڑھی ہے کہ مبادا تم یہ نہ کوک میں موت کے خوف
سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔“

۱۔ تجھے الاحباب ص ۸۱۔

جال شار دوستوں میں سے تھا۔

ایک دن حضرت عبد اللہ بن خبابؓ گدھے پر سوار تھے اور ان کے
ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھیں۔ خبابؓ نے گلے میں قرآن مجید حاصل کیا ہوا
تھا اور دریائے وجلہ کے قریب ایک نخلستان سے گزر رہے تھے کہ خروان کے
خوارج کا ایک گروہ ان سے ملا۔ خوارج نے ان سے کہا: ”تھجیم قبول کرنے
کے بعد تم علم کے متعلق کیارائے رکھتے ہو؟“

عبد اللہ بن خبابؓ نے کہا: ”ان علیاً اعلم بالله و اشد توقیاً علیٰ دینه
وانفذ بصیرة۔ (علیٰ ذات خداوندی کی زیادہ معرفت رکھنے والے اور دین کی
نگہبانی میں کوشش اور امور میں کامل بصیرت رکھنے والے ہیں۔)“

خوارج نے کہا: ”جس قرآن کو تو نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے وہ ہمیں
تیرے قتل کا حکم دیتا ہے۔“

پھر خوارج نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر
کے چہ کو نکلا اور قتل کر دیا۔ زوجہ خبابؓ کے ساتھ چند اور عورتوں کو بھی ناق
قتل کر دیا۔

خوارج مسلمانوں کے قتل میں اس قدر جری تھے اور دوسری طرف
بزم خود پر ہیزگار بھی تھے۔ اسی نخلستان میں ایک کھجور کے نیچے کچھ کھجوریں
گری ہوئی تھیں، ایک خارجی نے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو دوسرے خارجی
نے ڈاٹ کر کہا: ”یہ کیا کر رہا ہے؟“ اس نے وہ دانہ منہ سے باہر اگل دیا۔ یہ
خوارج کا گروہ دریا کے کنارے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خارجی نے ایک خنزیر
کو مار دیا، دوسرے خارجیوں نے اس پر تقدیم کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں

یہ سن کر زیر عن عوام اور مقداد عن اسود اٹھے اور عرض کی: "یار رسول اللہ! ہم دونوں جائیں گے۔"

دونوں صحابی رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے مقام تعمیم پر پہنچے۔ اس جگہ حضرت خبیث کا جسم صلیب پر لٹکا ہوا تھا اور اس کے قریب تمام پرہ دار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت زیر اور مقداد وہاں پہنچے تو چالیس پرہ دار شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے۔ زیر اور مقداد نے بڑی احتیاط سے خبیث کے جسم کو صلیب سے اتارا۔

خبیث کا جسم تازہ تھا اور انہوں نے اپنے زخم پر با تحرک رکھا ہوا تھا۔ زیر نے خبیث کی میت کو اپنے گھوڑے پر رکھا اور واپس چل پڑے۔ پرہ داروں کو ہوش آیا تو خبیث کی لاش غائب تھی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو اطلاع دی، وہاں سے ستر افراد گھوڑوں پر سوار ہو کر زیر اور مقداد کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔

آخر کار تعاقب کرنے والے ان دونوں صحابیوں کے قرب آگئے۔ انہیں قریب آتا دیکھ کر دونوں صحابی رک گئے۔ زیر نے خبیث کی لاش کو زمین پر رکھ دیا اور کفار مکہ سے کہا: "مجھے تجھ بے تمہیں ہمارے تعاقب کی جرأت کیسے ہوئی۔ میں زیر عن عوام ہوں، میں عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کا پینا ہوں اور میرے ساتھ مقداد عن اسود ہے، ہم دونوں شیر ہیں اور اپنی کچھار کی جانب جا رہے ہیں، جس نے لڑنا ہو وہ اپنا شوق پورا کر لے۔"

پھر انہوں نے بد دعا دیتے ہوئے کہا: "اللهم احصهم عدداً و اقتلهم بددًا ولا تبق منهم أحدًا۔ (پروردگار! ان کی تعداد کم کر اور انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔)"

پھر انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ جب اسلام کا یہ شیدائی صلیب کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہا: "خدیا! تو جانتا ہے یہاں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو میرا سلام تیرے جیب کو پہنچائے۔ اب تو خود ہی میرا سلام اپنے جیب تک پہنچا۔"

تاریخ ناجی کی روایت ہے کہ اس وقت حضرت رسول کریمؐ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپؐ نے زور سے فرمایا: "وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته۔"

صحابہؓ نے آپؐ سے پوچھا: "مولا! آپؐ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟"

آنحضرتؐ نے فرمایا: "خبیث بن عدیؓ نے مجھے اپنی زندگی کا آخری سلام کیا تھا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔"

انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، ابو عقبہ بن حرش نے ان کے جسم پر دار کیا جس سے ان کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کا جسم مرنے کے بعد بھی بدستور صلیب پر لٹکا رہا۔

پیغمبر خدا کو اللہ نے ان تمام واقعات کی خبر دی۔ آپؐ نے فرمایا: "تم میں سے کون ایسا ہے جو خبیث بن عدیؓ کے جسم کو صلیب سے اتار کر لے آئے؟"

کیا۔ چنانچہ ابوطالبؑ، محمدؐ مصطفیٰ اور اپنے تمام خاندان کو لے کر پہاڑی کے ایک درہ میں منتقل ہو گئے اور درہ کے دونوں اطراف میں انہوں نے پہرہ دار کھڑے کر دیئے۔ جب رات کا وقت ہوتا اور ستارے جوان ہوتے تو ابوطالبؑ محمدؐ مصطفیٰ کو ان کے بستر سے اٹھا کر علیؐ کے بستر پر سلاتے اور علیؐ کو آپؐ کے بستر پر سلا دیتے تھے اور حضرت امیر حمزہؓ رات کے وقت تلوار اٹھا کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم محسوس ہو گئے، کوئی انہیں سودا فروخت نہیں کرتا تھا اور ان سے کسی طرح کا لین دین نہیں کیا جاتا تھا۔

شعب اہل طالب میں بنی ہاشم نے سخت پریشانیاں دیکھیں اور بھوک کی وجہ سے پتے کھائے اور بعض اوقات چھڑے کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر رکھ دیا جاتا تھا اور صبح کے وقت وہ کچھ نرم ہو جاتا تو بنی ہاشم کے پتے اسے چباتے، سارا سال مکہ کے بازار سے بنی ہاشم کو کوئی سودا نہیں ملتا تھا، البتہ جب لایام حج آتے اور دور دراز سے لوگ مکہ آتے تو بنی ہاشم کے افراد شعب اہل طالب سے نکل کر ان سے خور و نوش کی اشیاء خرید کرتے اور ان اشیاء کو گھٹائی میں منتقل کر دیتے۔ اگر کوئی کافر انہیں اشیاء خریدتے ہوئے دیکھتا تو وہ ان اشیاء کی دُگنی قیمت ادا کر دیتا تھا اور بنی ہاشم کو اسے محروم ہونا پڑتا تھا اور دُگنی رقم کی پیشکش کے باوجود بھی اگر کوئی تاجر بنی ہاشم کو اشیاء فروخت کرتا تو قریش کے اوباش جوان اس کو لوث لیا کرتے تھے۔

مسلم بھوک اور ہماری کی وجہ سے بنی ہاشم کے پچھے بلکہ تھے اور ان کے جانوز نالوں کی آواز درہ سے باہر سنائی دیتی تھی جس سے قریش کے بہت سے لوگوں کے دل پتیج جاتے تھے۔

اسی اثناء میں خیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے جسم کو زمین نے نگل لیا، جب کفار نے دیکھا کہ اب وہ لاش ہی موجود نہیں ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب بڑائی کا کیا فائدہ ہے؟

چنانچہ مشرکین والیں مکہ چلے گئے اور حضرت نبیؐ اور مقدادؓ مدینہ واپس آئے اور رسول خداؐ نے خیبؐ کو "بلیع الارض" کا لقب دیا یعنی جسے زمین نے نگلا ہے۔ (۱)

شعب اہل طالب، استقامت کی عظیم مثال

جب کفار قریش نے یہ دیکھا کہ جو مسلمان جب شہ بھرت کر گئے ہیں وہ نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کی زندگی سر کر رہے ہیں اور جو مکہ میں ہیں وہ ابوطالبؑ کے زیر سایہ ہیں تو انہوں نے ایک ہنگامی مشاورت بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ جب تک ابوطالبؑ اور بنی ہاشمؐ محمدؐ مصطفیؐ کو ان کے حوالے نہ کریں ان سے ہر طرح کا قطع تعلق کیا جائے اور ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے رشتہ داری کی جائے۔

حضرت ابوطالبؑ نے حالات کی سنگینی کو دیکھا تو انہوں نے بنی ہاشم کا اجلاس بلایا اور کہا کہ ہم محمدؐ کو کسی قیمت پر قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ لہذا اسلامتی اسی میں ہے کہ شر مکہ کو چھوڑ کر پہاڑ کے وامن میں یہ لایام سر کئے جائیں۔

ابو الحلب کے علاوہ تمام بنی ہاشم نے ابوطالبؑ کی اس تجویز کا خیر مقدم

۱۔ سفیہ التجاری اص ۳۷۲۔

میں اس ظالمانہ معابدے کو چھاڑ کر پھینک دوں۔“
ہشام نے کہا: ”میں موجود ہوں۔“ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے
پاس گئے۔ ابوالحسنی، انہیں ہشام، زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔
دوسرے دن یہ لوگ اکٹھے گئے اور کہا: ”اے اہل مکہ! یہ کہاں کا
انصاف ہے کہ ہم تو آرام سے بسرا کریں اور بنی ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ
ہو؟“

ابو جہل نے کہا: ”ہرگز نہیں! جب تک بنی ہاشم محمدؐ کو ہمارے
حوالے نہیں کرتے معابدہ برقرار رہے گا۔“

اسی اثناء میں آنحضرت نے اپنے چچا حضرت ابوطالبؐ سے کہا: ”مجھے
اللہ نے خبر دی ہے کہ قریش نے جو ظالمانہ معابدہ لکھا تھا اس پورے معابدے
کی عبارت کو دیکھ چاٹ گئی ہے اور اس میں صرف ”باسم اللہ“ کے الفاظ
باقی ہیں۔“

ابوطالبؐ یہ سن کر حرم کعبہ میں آئے اور فرمایا: ”میرے بھتھے نے
مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے دیکھ کو تمہارے معابدے پر مسلط کیا ہے اور اس
میں ”باسم اللہ“ کے الفاظ کے سوابقی تمام معابدے کو دیکھ نے چاٹ لیا
ہے۔ اگر میرے بھتھے کی خبر صحیح ہے تو تم اس فرسودہ معابدے کو ختم ہونے کا
اعلان کر دو اور اگر میرے بھتھے کی خبر غلط ثابت ہوئی تو میں اپنے بھتھے سے اپنی
حمایت واپس لے لوں گا۔“

جب معابدے کو اتنا کردیکھا گیا تو تمام عبارت کو دیکھ چاٹ چکی
تھی، اس میں صرف ”باسم اللہ“ کے الفاظ باقی تھے۔

محافظ نبوت ابوطالبؐ رسول خدا کے بصر کے ساتھ اپنا بستر مجھاتے
اور دوسری طرف اپنے کسی بیٹے کو نلاتے تھے۔
ان سعد نے روایت کی ہے کہ پھر جب بھوک سے بلکہ تھے تو باہر
آواز آتی تھی، قریش سن کر خوش ہوتے تھے لیکن بعض رحمدلوں کو ترس بھی
آتا تھا۔

ایک دن حکیم بن حرام نے جو حضرت خدیجؓ کا پھیجا تھا، تھوڑے سے
گیوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجؓ کے پاس بھی، راستے میں ابو جہل نے
دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔

اتفاق سے ابوالحسنی کیس سے آگیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم
آیا اور کہا: ”ایک شخص اپنی بچو بھی کو کچھ کھانے کے لئے بھیجا ہے تو کیوں
روکتا ہے؟“

مسلم تین برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل
ہاشم نے یہ مصیبیں جھیلیں، بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف
سے اس معابدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔

ہشام عامری خاندان بنی ہاشم کا قریبی عزیز اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا
وہ چوری چھپے بنی ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجا رہتا تھا۔

ایک دفعہ وہ زہیر کے پاس جو عبد المطلبؐ کے نواسے تھے، گیا اور کہا:
”کیوں زہیر! تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ، پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے
ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟“

زہیر نے کہا: ”میا کروں تنا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو

والوں کے پیچھے دوڑے اس گروہ میں دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت عمرؓ بھی شامل تھے، حضرت علیؓ نے انہیں آواز دے کر کہا: ”تم پیغامت کو توڑ رہے ہو اور دوزخ کی طرف فرار کر رہے ہو۔“

حضرت عمرؓ خود روایت کرتے ہیں کہ اس دن میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ علیؓ کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے موت پک رہی تھی اور غیظ و غضب کی وجہ سے علیؓ کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، علیؓ کی آنکھیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے روغن زیتون میں آگ لگی ہوئی ہو۔ علیؓ کی یہ حالت دیکھ کر میں نے علیؓ سے کہا: ”ابوالحسن! تجھے خدا کی قسم ہمیں کچھ نہ کہو، عرب کی عادت ہے کہ کبھی بھاگتے ہیں اور کبھی حملہ کرتے ہیں اور جب مناسب موقع پر حملہ کرتے ہیں تو فرار کی تلاشی کر دیتے ہیں۔“

علیؓ میرے یہ الفاظ سن کر ہم سے دور چلے گئے لیکن میں جب بھی علیؓ کی اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو میرے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اس داروغیر کے مرحلے پر علیؓ کہتے ہیں: ”مسلمانوں کے فرار سے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میں رسول خداؐ کے سامنے جنگ کرنے لگا، اس وقت آنحضرت میری پشت کی جانب موجود تھے، کچھ دیر بعد میں نے پیچھے مزکر دیکھا تو حضور اکرمؐ مجھے نظر نہ آئے تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپؐ حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے، حضور اکرمؐ کی مفارقت میرے لئے ناقابل برداشت صدمہ تھی، میں نے پوری قوت مجتمع کر کے مشرکین پر حملہ کر دیا اور کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں مار کر بھگا دیا۔ اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ آنحضرت ایک جگہ گرے ہوئے ہیں، میں دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔“ آپؐ نے

چنانچہ مطعم نے آگے بڑھ کر کرم خور و دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیمی، زمعہ بن الاسود، ابوالحسنی اور زہیر سب ہتھیار باندھ کر ہو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ (۱)

جنگ احمد میں استقامت دکھانے والے

جنگ احمد میں تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے کفار نے دونوں اطراف سے مسلمانوں پر یورش کی تھی، مسلمان فوج کے قدم میدان سے اکٹر گئے اور وہ فرار کر گئے۔

زید بن اسیدؓ نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے پوچھا: ”میں نے سنا ہے کہ جنگ احمد میں علیؓ، ابو وجانہؓ اور سمل بن حنفیؓ کے علاوہ باقی تمام افراد بھاگ گئے تھے اور پھر کچھ دیر بعد عاصم بن ثابتؓ اور طلحہ بن ثابتؓ واپس آئے تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟“

امن مسعودؓ نے کہا: ”بھی ہاں! درست ہے۔“

ساکل نے پھر پوچھا: ”یہ بتاؤ ابو بکرؓ و عمرؓ کمال چلے گئے تھے؟“

امن مسعودؓ نے کہا: ”وہ میدان سے بھاگ کر بہت دور چلے گئے تھے اور وہ تیرے دن حضور اکرمؐ کی خدمت میں واپس آئے تھے۔“ (۱)

تاریخ التواریخ کی روایت کے مطابق جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو علیؓ نے دیکھا کہ پیغمبرؐ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو علیؓ پسلے پسلے پسلے تو فرار کرنے

۱۔ نقش از طبقات ابن سعد و خار الاغوار و تاریخ التواریخ ص ۳۹۳۔

۲۔ روضۃ الصفا۔

آوروں کو پسپا کر رہے تھے تو جبرئیل ائمّہ نے آنحضرتؐ سے کہا: "یار رسول اللہ! ہمدردی اور جوانمردی کا کمال یہ ہے جس کا علیٰ مظاہرہ کر رہا ہے۔" رسول خداؐ نے فرمایا: "کیوں نہ ہو۔ انه منی وانا منه (وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں)۔"

یہ سن کر جبرئیلؐ نے فوراً کہا: "وانا منکما (اور میں تم دونوں میں سے ہوں)۔"

جگ احمد کے بعد علیؐ کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ جراح نے کئی زخموں پر تانکے لگائے مگر زخم اتنے زیادہ تھے کہ تانکے باربار کھل جاتے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ علیؐ کی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ علیؐ سخت زخمی حالت میں بستر پر لیٹئے ہوئے ہیں پیغمبر اکرمؐ کی آنکھوں سے آنسو وال ہوئے۔ جراح نے عرض کی: "یار رسول اللہ! مجھے علیؐ کی تندرستی کی کچھ زیادہ امید نہیں ہے۔"

آپؐ نے فرمایا: "مت گھبر او انشاء اللہ علیؐ تندرست ہو جائیں گے اور آخری امت کے بدخت تین شخص کے حملے کو ابھی دیر ہے۔"

حضرت فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا الرحمۃ الرحمیۃ ہیں؟ "لو الحسن! تمہاری اس دلیری کی وجہ سے کہیں حسن اور حسین یتیم نہ ہو جائیں۔" (۱)

۱۔ نقل از تاریخ روضۃ الصفا، تاریخ التواریخ اور زخموں کی تعداد اور حضرت سیدۃ کا گردی سفینہ جا ص ۱۳۹ سے اخذ کیا گیا۔

فرمایا: "لوگ کہاں گئے؟" میں نے عرض کی: "مولا! لوگ آپؐ کو تناچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔"

آپؐ نے فرمایا: "تم کیوں نہ گئے؟" میں نے عرض کی: "ان لی بلک اسوہ۔ میں آپؐ کی پیروی کرنے والا ہوں۔"

اس دوران کفار کے ایک دستے نے پیغمبر اسلامؐ پر حملہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: "علیؐ ان کے شر کو مجھ سے ہٹاؤ۔" میں نے ان پر دائیں بائیں غرضیکہ ہر طرف سے حملہ کیا کہ وہ دستے بھاگ کھڑا ہوا۔

پھر کفار کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی۔ لڑتے لڑتے حضرت علیؐ کی تکوار ٹوٹ گئی۔

علیؐ خدمت پیغمبرؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: "مولا! میری تکوار ٹوٹ گئی تو اس وقت جبرئیل ائمّہ نے ذوالفقار لا کر علیؐ کو دی اور ندا کر کے کہا: "لافی الا علی لا سيف الا ذوالفقار۔ (علیؐ کے علاوہ کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تکوار نہیں۔)"

آنحضرتؐ نے فرمایا: "علیؐ! اس آواز کو سنتے ہو؟" خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو چکل پڑے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

جس وقت علیؐ تن تنا عجیب خداؐ کے دفاع میں مصروف تھے اور ان کی تکوار کفار کے جسم میں کبھی ڈوبتی اور کبھی نکلتی اور شمشیر شربار سے حملہ

اٹھا کر رسول خدا کے پاس لائے۔
ایودجاش نے آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کی: "یا رسول اللہ! کیا
میں نے اپنا عبد پورا کر دیا؟"
آنحضرتؐ نے فرمایا: "بے شک تو نے اپنا عبد پورا کیا۔"
پھر آپؐ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔(۱)

ایک مسلم خاتون کی جانشیری

نسیہ بنت کعبؓ جس کی کنیت ام عمار تھی، اپنے شوہر غزیہ اور دونوں
بیٹوں عمار اور عبداللہ کے ساتھ جنگ احمد میں موجود تھی۔
نسیہ نے اپنے کندھوں پر مشک اٹھائی ہوئی تھی اور مجاذبین اسلام کو
پانی پلا رہی تھی۔
جب جنگ احمد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کافروں نے حبیب
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تابوڈ توڑھلے شروع کئے تو حضرت نسیہؓ نے
کندھ سے مشک اتار چکی اور حضور اکرمؐ کے سامنے پر عن کر کھڑی ہو گئی،
جنئے تیر اور نیزے آتے انہیں اپنے سینے پر برداشت کرتی اور اس جنگ میں اس
خاتون کو تیرہ زخم آئے۔

ان قسمیہ نے ایک ایسا زخم انہیں لگایا کہ پورا ایک سال تک وہ زخم
مند مل نہ ہوا اور یہ خاتون اس کی مرہم پڑی کرتی رہی۔
ان قسمیہ نے اس بھادر خاتون کو زور کی ضرب ماری مگر اسلام کی جانباز

۱۔ ناخ التواریخ جلد اول ص ۲۵۔ چاپ مطبوعات دینی۔

ایودجاش - استقامت کا کوہ گراں

جنگ احمد میں جب پیغمبر اسلامؐ اور حضرت علیؑ کفار کے زخم میں
محصور ہوئے اور باقی تمام صحابہ میدان سے بھاگ گئے، اس دوران پیغمبر اسلامؐ
کی نظر ایودجاش پر پڑی، آپؐ نے ایودجاش کو بلا کر فرمایا: "ایودجاش! میں نے
تیری گردن سے اپنی بیعت کا قلاادہ اٹھا لیا ہے، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن
علیؑ کی گردن سے میں اپنی بیعت کا قلاادہ نہیں اٹھاں گا کیونکہ علیؑ مجھ سے ہے اور
میں علیؑ سے ہوں۔"

یہ سن کر ایودجاش نے زارو قطار روتا شروع کیا اور کہا: "خدائی قسم
میں آپؐ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا اور میں اپنی گردن سے آپؐ کی بیعت کا
قلاادہ نہیں نکالوں گا، آپؐ بتائیں میں آپؐ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟

کیا میں اس بیوی کے پاس واپس چلا جاؤں جو عنقریب مر جائے گی یا
میں اپنے گھر چلا جاؤں جو عنقریب اجز جائے گا اور کیا میں اپنی مال و دولت کی
طرف جاؤں جو جلدی ختم ہو جائے گا؟
کیا میں اس وقت اپنی زندگی چاکر بھاگ جاؤں تو میری زندگی مجھ
سے کب تک وفا کرے گی؟"

رسول خداؐ نے جب اپنے عاشق صادق کا یہ جذبہ دیکھا تو آپؐ نے
اسے جنگ کی اجازت دے دی۔

ایک طرف سے علیؑ جنگ کرنے لگے اور دوسری طرف سے ایودجاش
لڑنے لگے۔

آخر میں زخموں کی تباہ نہ لاتے ہوئے ایودجاش گر پڑے۔ علیؑ انہیں

فرمایا: ”تو نے قصاص لے لیا، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دشمن پر فتح عطا کی۔

بارک اللہ علیکم من اہل بیتی لمقامک خیر من فلاں و فلاں۔ (اللہ تعالیٰ تمہیں الہیت پیغمبر کی طرف سے خیر و برکت عطا کرے۔ تیرا مقام فلاں اور فلاں سے بیڑتے ہے۔)“

اس روایت میں راوی نے فلاں فلاں کہہ کر دو افراد کے ناموں کا اختیار نہیں کیا لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں و فلاں سے پہلے دو بزرگوار مراد ہیں۔

نسیہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت عطا کرے۔“ آنحضرت نے فرمایا: ”اللهم اجعلهم رفقانی فی الجنة۔ (خداوند!) انہیں جنت میں میرارفیق بناتا۔“

نسیہ کہتی ہیں کہ میں جنگ یمامہ میں شریک تھی اور اس جنگ میں میرا بیٹا عبد اللہ بھی میرے ہمراہ تھا، جب میسلم کذاب کے شکر کو غلت ہوئی تو وہ بھاگ کر حدیقتہ الموت میں پناہ لینے لگے، اس سے قبل حدیقتہ الموت کو حدیقتہ الرحمن کہا جاتا تھا، اس باغ میں مسلمانوں اور مرتدین میں شدید جنگ ہوئی اور اسی جنگ میں ایودجانہ انصاری شہید ہوئے۔

خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا اور مسلمان باغ کی دیوار پھلانگ کر باغ میں داخل ہونے لگے، میں بھی لوگوں کے ساتھ باغ میں داخل ہوئی اور میسلم کذاب کو تلاش کرنے لگی۔ اسی اثناء میں ایک مرتد نے مجھ پر تکوar سے حملہ کیا

خاتون پھر بھی پیچھے نہ ہٹی، اس نے جو اپنی طور پر ان قمیں پر حملہ کیا مگر وہ زرہ پنے ہوئے تھا اسی لئے نسیہ کی ضرب سے اسے کوئی گزندشت پہنچا البتہ وہ اس کے سامنے تاب مقاومت نہ لاتے ہوئے بھاگ گیا۔

مسلمان فوج میں اس وقت بتری پھیلی ہوئی تھی اور مسلمان بھاگ رہے تھے۔ ایک دوڑتے ہوئے مسلمان سپاہی کو نسیہ نے آواز دے کر کہا: ”تم خود تو بھاگ رہے ہو اپنی ڈھال تو پھینک دو، دوڑتے ہوئے سپاہی نے اپنی ڈھال پھینکی، جناب نسیہ نے ڈھال اٹھا لی اور پر لے کر حضور اکرمؐ کے سامنے مردانہ وار کھڑی ہو گئی۔

اسی اثناء میں ایک کافر نے اس مجادہ خاتون پر حملہ کیا، انہوں نے پر سے اپنا چاؤ کیا اور زور سے حملہ آور کو تکوار ماری جو اس کے گھوڑے کو جاگلی، گھوڑا اگر گیا اور اس کے ساتھ اس کا سوار بھی گرا۔

آنحضرت نے اس خاتون کے بیٹے عبد اللہ سے کہا کہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ عبد اللہ دوڑ کر آئے اور ماں کے ساتھ مل کر اس کافر کو تباخ کیا۔

پھر ایک اور کافر نے عبد اللہ پر حملہ کیا جس سے عبد اللہ زخمی ہوئے، حضرت نسیہ نے کوئی لمحہ ضائع کئے بغیر اپنے بیٹے کو پیٹی باندھی اور فرمایا: ”بیٹا جلدی کھڑے ہو جاؤ اور جنگ میں تا خیر نہ کرو۔“

پھر حضرت نسیہ نے اپنے بیٹے پر حملہ کرنے والے کافر پر حملہ کیا، اس کے پاؤں پر تکوار لگی، کافر نیچے گرا اور جناب نسیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اتنے زور سے ہنے کہ آپ کے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح چکنے لگے اور

جنگ تھا۔ ان کے چار جوان بیٹے جنگِ احمد میں حضور اکرمؐ کے ہم رکاب تھے۔ عمر و بن جموج نے خود بھی جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں نے اس سے کہا: ”تمہارے چار جوان بیٹے تو جنگ میں شریک ہیں تم ایک معدوز شخص ہو تمہیں جنگ میں نہیں جانا چاہئے۔“

عمر و بن جموج نے کہا: ”یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔“

یہ کہہ کر اسلام کا جال شمار اپنے گھر سے انکا اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کر کے کہا: ”پروردگار! اب مجھے واپس گھر جانا نصیب نہ ہو۔“

جب عمر و بن جموج بارگاہ رسالتؐ میں حاضر ہوئے تو رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”تم معدوز ہو تم پر جہاد واجب نہیں ہے۔“

عمر و بن جموج نے کہا: ”یار رسول اللہؐ! میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔“

پھر عمر و بن جموج آپؐ سے اجازت لے کر میدان کارزار میں گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا پینا خلاؤ شہید ہوا اور پھر ان کے برادر نبیتی عبد اللہ بن عمر و بن حزام، سفیان بن عبد شمس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ عبد اللہ، مشور صحابی جابر بن عبد اللہ النصاری کے والد ہیں۔

جنگِ احمد اپنے اختتام کو پہنچی۔ عمر و بن جموج کی زوجہ ہند میدان میں آئی اور اپنے بھائی عبد اللہ بن عمر و بن حزام اور اپنے شوہر عمر و بن جموج اور اپنے بیٹے خلاؤ کی لاشوں کو ایک اونٹ پر لادا اور تینوں لاشیں لئے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔

جس سے میرا ایک بازو دکٹ کر دور جاگرا، خدا کی قسم اس کے باوجود بھی میں جہاد میں مصروف رہی، کچھ دیر بعد میں نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے مرتد کو دیکھا کہ وہ قتل ہو چکا تھا اور میرا پینا عبد اللہ اس کے سر کے قریب کھڑا ہو کر اپنی تلوار کو اس کے خون سے صاف کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر مرہم پٹی کرائی۔

حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں ایک قیمتی اور نفیس پوشک مال غنیمت میں لائی گئی، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: ”بھتر یہ ہے کہ آپ یہ پوشک اپنی بیوی صفیہ زوجہ عبداللہ کو دے دیں اس لئے کہ وہ نوبیا ہی ولہن ہے۔“

حضرت عمرؓ نے کہا: ”میں یہ پوشک اسے دوں گا جو تمام عورتوں میں سے اس کی زیادہ حقدار ہو گی۔“

پھر انہوں نے وہ پوشک حضرت نبیؐ کے پاس بھجوادی اور کماکہ میں نے پیغمبر اسلامؐ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”جب جنگِ احمد میں لڑائی میں شدت پیدا ہوئی اور میرے صحابی مجھے چھوڑ کر بھاگے تو میں اس عالم میں جدھر بھی دیکھتا تھا معمارہ (نبیؐ) مجھے اپنی پر بنی نظر آتی تھی۔“ (۱)

ایک مسلم خانوادہ کی استقامت

حضرت عمر و بن جموج آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمر رسیدہ صحابی تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ان کی ایک نائگ میں

۱۔ روشنۃ الصفاج ص ۲۱۲۔

کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عمر و عن جموج بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔“
پھر آپ نے فرمایا: ”لہذا! فرشتوں نے تمہارے بھائی عبداللہ کے سر پر
اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمال دفن ہوتا ہے۔ تمہارا
شوہر اور تمہاری بھائی اور تمہاری بنت میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔“
ہند نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! پھر دعاء مانگیں کہ میں بھی بنت میں
ان کی رفیق ہوں۔“

عبداللہ اور عمر کی قبر احاد کے میدان میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں
سے سیالی پانی گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس پہاڑی نالے میں سیالاب آیا اور ان کی
قبریں مندم ہو گئیں۔ لوگوں نے یہ عجیب منظر وہاں جا کر دیکھا کہ عبداللہ اپنے
زمخ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ان
کے زخم سے خون پکنے لگا۔ لوگوں نے مجبور ہو کر ان کے ہاتھ کو پھر اسی جگہ پر
رکھ دیا تو خون رستا ہند ہو گیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری کہتے ہیں کہ میرے والد کی قبر
چھیالیں سال کے بعد مندم ہوئی، میں قبر کی اصلاح کے لئے گیا تو میرے
والد کا جسم اسی طرح سے تروتازہ تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسا کہ ابھی سوئے
ہوں اور حرم لگھاس جو دفن کرتے وقت ان کی پنڈلیوں پر ڈالی گئی تھی وہ بھی
جوں کی توں سر بزرو شاداب تھی۔ میں نے چاہا کہ اپنے والد کے جسم پر عطر
چھڑ کوں تو صحابہ نے مجھے روک دیا اور کہا: ”اسے اس کے حال پر رہنے دے
اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کر۔“ (۱)

۱۔ نامغ التواریخ جلد اول ص ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۳۔ چاپ مطبوعات دینی۔

وہ نبی می لاشیں اٹھائے مدینہ کی طرف جا رہی تھیں اور مدینہ سے بہت
سی عورتوں روتنی پیشی احمد کی جانب آ رہی تھیں، ان عورتوں میں ام المؤمنین
عائشہ بھی شامل تھیں، آنے والی عورتوں نے پیغمبر اکرمؐ کی خیریت دریافت کی
تو ہند نے کہا: ”خدا کا شکر ہے کہ رسول کریمؐ زندہ سلامت ہیں اور جب حضورؐ
زندہ ہیں تو ہمارے لئے کوئی مصیبت، مصیبت نہیں ہے۔“

عورتوں نے ہند سے پوچھا کہ اونٹ پر کیا ہے؟ تو ہند نے کہا: ”اونٹ پر
میرے بھائی اور شوہر اور بیوی کی لاشیں ہیں، میں یہ لاشیں مدینہ لے جا رہی ہوں۔“
جب اونٹ میدان احاد کے ریگستان کی آخری سرحد پر پہنچا تو لیٹ گیا۔
ہند نے اسے لاٹھی اور پھرتوں سے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ بالکل
نہ اٹھا لیکن جب اونٹ کا رخ تبدیل کر کے احاد کی طرف کیا جاتا تھا تو اونٹ
میدان احاد کی طرف دوڑنے لگتا تھا اور جب مدینہ کی طرف اونٹ کا رخ موڑا
جاتا تو وہ احاد کی سرحد پر لیٹ جاتا اور آگے حرکت نہ کرتا۔

یہ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو
آپؐ نے ہند سے فرمایا کہ اونٹ امر خدا کی تعمیل کر رہا ہے اور ساتھ ہی آپؐ
نے ہند کو مخاطب کر کے فرمایا: ”تیرے شوہر نے گھر سے روان ہوتے وقت کیا
کہا تھا؟“

ہند نے عرض کی: ”مولا! میرے شوہر نے بارگاہ احادیث میں
درخواست کی تھی کہ مجھے دوبارہ مدینہ نہ لانا اور مجھے شہادت عطا فرماتا۔“

یہ الفاظ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اے
گروہ انصار! تمہارے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو خدا سے جو کچھ مانگیں خدا ان

نے کہا: "میں تجھے اس شرط پر رہا کرتا ہوں کہ تو میرے سر کا بوسہ لے گا۔"
 عبد اللہ بن حذاق نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔
 روئی سردار نے کہا: "تم عیسائیت کرو تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور اپنی نصف حکومت بھی تمہیں دوں گا۔"
 عبد اللہ نے اس پیشکش کو بھی پانے خواتت سے ٹھکرایا۔
 روئی سردار نے کہا: "اگر تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں اس کے بدے میں اتنی (۸۰) مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔"
 عبد اللہ نے اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ روئی افسر نے عبد اللہ اور ان کے ساتھ اتنی (۸۰) مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔
 جب یہ قیدی رہا ہو کر مدینہ میں حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی تو حضرت عمرؓ نے اٹھ کر عبد اللہ کے سر کا بوسہ لے لیا۔
 بعض اوقات اصحاب پیغمبرؐ مرحوم عبد اللہ سے کہا کرتے تھے کہ تو نے ایک عیسائی کے سر کو چوما تھا تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ اتنی (۸۰) مسلمانوں کو آزاد بھی کر لیا تھا۔ (۱)

جب انسان استقامت کھو دے؟

شیخ یحیاء علیہ الرحمہ سکول کی جلد اول میں لکھتے ہیں: "ایک زمانے میں ایک عابد کوہ بنان میں زندگی سر کیا کرتا تھا۔ اس نے دامن کوہ میں اپنے لئے کنیا سی بنائی ہوئی تھی۔ وہ دن رات پروردگار کی عبادت کیا کرتا تھا۔

۱۔ سفید الحدائق ص ۷۲۔

مسلمان کو ہمیشہ مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہئے

حضرت عبد اللہ بن حذاق کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے جب شہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔

خلافت ثانیہ کے دور میں روئیوں کے ہاتھوں دیگر مسلمانوں کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ روئیوں نے اپنے قیدیوں کو عیسائیت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان قیدیوں نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ روغن زینون کا ایک بڑا کڑھاؤان کے لئے گرم کیا گیا۔ جب زینون کا تیل پوری طرح سے گرم ہو گیا تو روئیوں نے ایک قیدی کو پکڑ کر پھر عیسائیت قبول کرنے کا حکم دیا۔ قیدی نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ روئیوں نے اس قیدی کو پکڑ کر کڑھاؤ میں پھینک دیا۔ چند لمحات میں بے چارا جل گیا اور اس کی بڈیاں کڑھاؤ کی سطح پر تیرنے لگیں۔ پھر عبد اللہ کو پکڑ کر کڑھاؤ کے قریب لا یا گیا اور اسے نفرانیت قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ انکار کرنے پر حکم ملا کہ اسے پکڑ کر کڑھاؤ میں پھینک دیا جائے۔

یہ دیکھ کر عبد اللہ بن حذاق زارزار رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر روئی افسر نے کہا: "معلوم ہوتا ہے یہ آگ سے ڈر گیا ہے اسے واپس لاو۔"

عبد اللہ نے روئی افسر سے کہا: "تم نے غلط سمجھا، میں اس گرم تیل کی وجہ سے نہیں رویا میں تو اس لئے روتا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، کاش میرے پاس اتنی جاتیں ہوتیں جتنی کہ میرے بدن پر بال ہیں اور میں اتنی ہی مرتبہ راہ خدا میں قتل کیا جاتا۔"

روئی اس کی باتیں سن کر انہیں آزاد کرنے پر مائل ہوئے، روئی سردار

میں اس کے گھر اور جانوروں کی نگہبانی کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ کبھی مجھے روٹی کا ٹکڑا یا ایک آدھ روٹی پہنچاتا ہے، میں اسی پر قناعت کر لیتا ہوں اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے مالک کے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مجھے بھی بھوکارہنا پڑا، میں نے اپنی عادت بنالی ہے کہ مالک کی طرف سے کچھ مل گیا تو کھایتا ہوں اور اگر کچھ نہ ملا تو صبر کرتا ہوں، مگر اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا اور تیری بے حیائی کی حد یہ ہے کہ اگر ایک رات تیرے مالک نے تجھے روٹی نہیں دی تو تو مالک کو چھوڑ کر ایک عیسائی کے دروازے پر چلا آیا۔

اب مجھے بتا کہ بے حیا میں ہوں یا تو ہے؟“

یہ سن کر عابد بہت شرمندگی ہوا اور شرمنگی کی وجہ سے غش کھا کر گر پڑا۔

چند روایات

قال علی (ع) ان رسول اللہ (ص) کان بقول: ان الجنة حفت بالمکاره، وان النار حفت بالشهوات و اعلموا انه مامن طاعة الله شيء الا وياتي في كره، وما من معصية الله شيء الا ياتي في شهوة فرحم الله رجال نزع عن شهوته و قمع هوی نفسه الى ان قال قال الله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقد قلت ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج امره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ثم لا تمرقوها منها ولا

روزانہ مغرب کے وقت ایک روٹی غیب سے اس کی کثیا میں آتی۔ وہ اسی سے روزہ، افطار کرتا تھا اور آدمی چاکر اس سے سحری کیا کرتا تھا۔

اسی طرح سے ایک مدت تک اس کے شب و روزہ سر ہوتے رہے۔

ایک رات اس کی کثیا میں روٹی نہ آئی، وہ بے چینی سے غذا کا انتظار کرتا رہا، ساری رات اس نے بھوک میں بسر کی، دوسرے دن روزہ نہ رکھا اور پہاڑ سے اتر کر نیچے آبادی کی طرف آیا، قریب ہی عیسائیوں کی ایک بستی تھی، عابد وہاں آیا اور ایک عیسائی سے روٹی کا سوال کیا۔

عیسائی نے اسے ایک جو کی روٹی لا کر دی۔

عبد جو کی روٹی لے کر اپنی کثیا کی طرف روانہ ہوا۔ اس عیسائی کا ایک کمزور اور مریل سا کتنا اس عبد کے پیچے دوڑنے لگا اور کاشنے کو آیا۔

عبد نے آدمی روٹی کتے کو ڈالی، کتے نے وہ روٹی کھائی اور پھر دبارہ عبد کے کاشنے کو دوڑا۔

عبد نے اپنی جان چنانے کی خاطر باقی آدمی روٹی بھی کتے کو ڈال دی، کتے نے روٹی کا باقی آدھا ٹکڑا بھی کھایا۔

پھر وہ تیسرا مرتبہ عبد کے کاشنے کو دوڑا۔

عبد نے کتے سے کہا: ”تو برابے حیا ہے تیرے مالک نے مجھے صرف ایک روٹی دی تھی، وہ میں نے تجھے کھلادی، پھر بھی تو میرے کاشنے کو دوڑ رہا ہے۔“

الله تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی قوت عطا کی تو کتے نے کہا: ”میں بے حیا نہیں ہوں، تو بے حیا ہے۔ میں ایک مدت سے اس شخص کے در پر پڑا ہوں،

تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها، فإن أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيمة إلى أنه قال ولقد قال رسول الله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وهو نقى الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من اعراضهم فليفعل.

”نفح البلاق خطب ۲۷۳“

حضرت أمير المؤمنين عليه السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھری ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش عن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جز بیاد سے اکھیر دیا۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جنوں نے یہ کما کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس (عقیدے) پر مجھے رہے ان پر فرشتے اڑتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

جب تمہارا قول یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر مجھے رہو اور پھر اس سے نکل نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو۔ اس لئے کہ اس راہ سے نکل بھائے وائلے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے

والے ہیں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مستحکم نہ ہو۔“

لہذا تم میں سے جس سے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک و صاف اور اس کی زبان ان کی آمروزی سے محفوظ رہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہئے۔

عن عبداللہ بن مسعود(رض) قال: دخلت أنا و خمسة رهط من أصحابنا يوماً على رسول الله وقد أصابتنا مجاعة شديدة لم يكن رزقاً من ذارعة شهر إلا الماء واللبن و ورق الشجر فقلنا يا رسول الله إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ فقال رسول الله لا تزالون فيها ماعشتتم فالحدثوا لله شكرًا فاني قرأت كتاب الله الذي انزل على و على من كان قبلى فما وجدت من يدخلون الجنة إلا الصابرون.

”مکارم الاخلاق طبری ص ۵۲۲“

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوستوں کے پانچ گروہ تھے ہم مل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں ہم سخت بھوک کی لپیٹ میں تھے اور چار ماہ سے ہم پانی، دودھ اور رختوں کے پتے چباچبا کر زندگی بسر کر رہے تھے۔

ہم نے آنحضرت کی خدمت میں بھوک کی ثناکیت کرتے ہوئے عرض کی: ”یار رسول اللہ! ہم کب تک اس شدید بھوک میں رہیں گے؟“

قول الله عزوجل ”والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا“ فقال ابو عبدالله استقاموا على الانفة واحداً بعد واحد تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

”اصول کافی ج ۱ ص ۲۰۲“

قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ: ”وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا“ (سورۃ جن آیت ۱۶) اگر وہ راہ پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں خشگوار پانی پلا کیں گے۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام محمد تقیٰ نے فرمایا: ”اس کی ایک تاویل یہ بھی ہے کہ اگر وہ امیر المؤمنین علی اور ان کے جانشینوں کی ولایت کے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور امر و نہیٰ میں ان کی مکمل اطاعت کی تو ہم ان کے دلوں کو آب ایمان سے سیراب کریں گے اور اس آیت میں جس لفظ طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد علی اور ان کے اوصیاء کی ولایت ہے۔“

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ”ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا“ (سورۃ فصلت آیت ۳۰) بے شک جنوں نے کما اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس عقیدے پر جنے رہے، کی آیت مجیدہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا: ”اس سے مراد وہ افراد ہیں جو ایک امام کے بعد دوسرے امام کے عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہے ہوں۔ انہی لوگوں سے فرشتے ملاقات کریں گے اور انہیں کہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

آنحضرت نے فرمایا: ”جب تک زندہ ہو اسی طرح سے بہر کرو گے اور بھوک میں رہ کر بھی خدا کا شکر جالاؤ، میں نے قرآن مجید اور سابقہ کتب میں یہی پڑھا ہے کہ جنت میں صابرین ہی جائیں گے۔“

قال ابن عباس (رض) مانزل على رسول الله ایہ کانت اشد عليه ولا اشق من قوله تعالى، فاستقم كما مرت ولذلك قال لاصحابه حين قالوا له اسرع اليك الشيب يارسول الله قال: شبستني هود والواقعة.

”سفیہتہ الماجد ص ۲۵۵“

اُن عبّاس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاستقم کما امرت (سورۃ هود آیت ۱۱۲) کی آیت سے زیادہ گراں اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے اصحاب نے عرض کی: ”یارسول اللہ! آپ جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں۔“

تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ هود اور سورۃ الواقعہ نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔

﴿عَقِيْدَةُ اَمَّاتٍ كُلِّيَّةٍ اسْتَقَامَتْ كَيْلَيْهَا ضَرُورَتْ هَيْهَا﴾

عن ابی جعفرؑ فی قوله تعالیٰ: ”وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا“ قال یعنی لو استقاموا على ولایة علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین والوصیاء من بعده علیهم السلام وقلوا اطاعتہم فی امرہم ونھیم لاسقیناهم ماء غدقا لاشربنا قلوبہم الایمان والطريقة ہی الایمان بولایة علی والوصیاء. وعن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد اللہ عن

چغل خوری اور غیبت

ولا يغتب بعضكم بعضاً يحب أحدكم إن يأكل لحم

أخيه ميتاً۔ (سورہ ججرات آیت ۱۲)

”ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟“

چغل خور کا انعام

ایک ناصیحی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شیعہ سے سوال کیا: ”تو دس صحابوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟“ (۱)

۱۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس افراد کو جنت کی بھارت دی تھی، اسی نے اہل سنت انہیں ”عشرہ مبشرہ“ کہتے ہیں لور ان کے نام یہ ہیں:
 (۱) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی (۵) حضرت طلحہ
 (۶) حضرت زین (۷) حضرت عبد الرحمن بن عوف (۸) حضرت سعد بن ابی وقاص
 (۹) حضرت ابو عبیدہ بن جراح (۱۰) حضرت سعید بن زید
 مگر شیعہ روایان سے یہ روایت ثابت نہیں ہے اور پھر یہ کسی طور پر بھی (بچہ اگلے صفو پر)

شیعہ نے تو ریس سے کام لیتے ہوئے کہا: ”میں ان کے متعلق اچھا نظریہ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے میرے گناہ کم ہوں گے اور میرے درجات میں اضافہ ہو گا۔“

سوال کرنے والے نے کہا: ”الحمد لله! اللہ نے مجھے تیری دشمنی سے نجات دی، جب کہ اس سے قبل میں یہ سمجھتا تھا کہ تو رافضی اور دشمن صحابہ ہے۔“

شیعہ نے کہا: ”میرا نظریہ یہ ہے کہ جو ایک صحابی سے دشمنی رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“

ناصیحی نے کہا: ”ممکن ہے تو اس قول کی ذہنی طور پر کوئی تاویل کے پیشہ ہو تو مجھے ان دس صحابہ کے متعلق اپنے عقیدے اور نظریے کی خبر دے۔“

شیعہ نے کہا: ”میں تجھے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب مزید کتنا چاہتا ہوں کہ جو شخص تمام دس افراد سے دشمنی کرے اس پر خدا، ملائکہ اور دنیا جہان کی لعنت ہو۔“

یہ الفاظ سن کر ناصیحی اٹھا اور اس کے سر کا یوسہ لیا اور کہا: ”بھائی مجھے معاف کرنا میں تجھے رافضی سمجھتا رہا۔“

گزشتہ سے پوچھتے:
 جامع نہیں ہے جبکہ پیغمبر اکرمؐ کی مشور حدیث ہے کہ حسن اور حسین جو اہل جنت کے سردار ہیں اور آپؐ نے اپنی دختر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔
 ان دس افراد میں نہ تو حسین کریمین اور نہ ہی ان کی والدہ فاطمہ زہراؑ شامل ہیں تو اس تعداد کو کسی طرح سے بھی جامع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اور ہزاروں احادیث کی طرح یہ حدیث بھی زلفند کے بد لے ہوائی گئی ہے۔

تحی کیونکہ علی بھی ان دس افراد میں شامل ہیں۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”خریبل مؤمن آل فرعون نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح توریہ سے کام لیا تھا۔ ہوا یوں کہ خربیل ہمیشہ لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ کی نبوت اور محمد مصطفیٰ کی تمام انبیاء پر فضیلت اور علی کی تمام اوصیاء پر فضیلت کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ فرعون کو اپنا خدا تسلیم نہ کریں۔

ایک مرتبہ چند افراد نے فرعون کے ہاں جا کر اس کے خلاف چغلی کھائی کہ خربیل لوگوں کو تیری مخالفت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔

فرعون نے ازراہ تجھب کہا: ”وہ میرا چچا زاد اور میرا ولی عمد ہو کر ایسا کرتا ہے؟ اگر تمہاری بات حق ثابت ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا کیونکہ ایسا کر کے اس نے کفران نعمت کا ثبوت دیا ہے اور میری رویت کا انکار کیا ہے اور اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر یاد رکھنا میں تمیس بدترین سزا دوں گا۔“

الغرض مؤمن آل فرعون حضرت خربیل کو دوبار میں بلا یا گیا اور چغل خوروں کی موجودگی میں ان سے کہا گیا کہ تو رویت فرعون کا انکار اور کفران نعمت کرتا ہے؟

حضرت خربیل نے فرعون کی طرف رخ کر کے کہا: ”فرعون! آج تک تو نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟“ فرعون نے کہا: ”ہرگز نہیں۔“

خربیل نے کہا: ”پہلے خود ان سے دریافت کرو کہ ان کا پروردگار

شیعہ نے کہا: ”تجھے آسودہ خاطر ہونا چاہئے تو میرا بھائی ہے۔“ اس کے بعد ناصیہ اٹھ کر چلا گیا۔

لام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شیعہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”مر جبا! تو نے اچھا جواب دیا اور تیرا جواب سن کر ملائکہ نے تجھ کیا اور تو نے عقل مندی اور حسن توریہ سے کام لیا، جس کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو ظالموں کے شر سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کے غم میں مزید اضافہ کرے گا اور ہمارے دشمنوں کی ایذار سانی کے مقصد میں انہیں کامیابی نہیں دے گا۔“

لام عالی مقام کے ایک ساتھی نے عرض کی: ”اے فرزند رسول! ہمیں تو اس کے جواب کی کچھ سمجھ نہیں آئی؟“

آپ نے فرمایا: ”تم اس کے جواب کو نہیں سمجھے اور ہم اس کا مقصود و مفہوم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی اسے ضرور جزا عطا فرمائے گا اور جب بھی کوئی ناصیہ ہمارے کسی دوست کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حسن جواب کی توفیق عطا کرتا ہے اور توریہ و ترقیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔

ہمارے اس پیروکار نے ناصیہ کے جواب میں کہا تھا ”جو ان دس میں سے ایک پر نکتہ چینی کرے وہ غلط کرتا ہے“ اس جملے سے اس کی مراد حضرت امیر المؤمنین کی ذات والا صفات تھی اور دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ ”جو ان تمام دس افراد کو بر اجائے تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہو“ اس نے غلط جواب نہیں دیا، ان الفاظ سے بھی اس کا مقصود مولاۓ کائنات کی ذات

کون ہے؟“

فرعون نے ان سے پوچھا: ”تمہارا خالق کون ہے؟“

انہوں نے کہا: ”فرعون ہمارا خالق ہے۔“

فرعون نے پھر پوچھا: ”یہ بتاؤ تمہارا رازق اور تمہارے تمام معاملات کا کفیل کون ہے؟“

انہوں نے کہا: ”فرعون ہمارا رازق اور معاملات کا کفیل ہے۔“

جب حضرت خربل نے ان کے یہ الفاظ سننے تو فرمایا: ”فرعون! میں تجھے اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جوان کا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے، جوان کا خالق و رازق ہے وہی میرا خالق و رازق ہے، ان کے پروردگار اور خالق و رازق کے علاوہ میں کسی دوسرے پروردگار اور خالق و رازق کو تشکیم نہیں کرتا۔“

ان الفاظ سے خربل کا مقصود یہ تھا کہ جو پوری کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے وہی ان کا خالق و مالک ہے، اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ جوان کا پروردگار اور خالق و رازق ہے وہی میرا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جسے یہ اپنا خالق و رازق کہہ رہے ہیں وہی میرا خالق و رازق ہے۔

حضرت خربل کے یہ الفاظ سن کر فرعون نے کہا: ”اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے اور میرے انہیں عِم کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو، پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر لشادیا جائے اور لوہے کی میخیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں اتار دی جائیں، بعد ازاں اس نے اپنے ان جلادوں کو بلایا جن کے پاس فولادی کنگھیاں ہوا کرتی تھیں، انہیں حکم دیا کہ فولادی کنگھیوں سے

ان کے جسم کو پارہ پارہ کر دیا جائے۔

چنانچہ اس طرح سے چغل خور اپنے انعام کو پہنچ۔“

پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”فوقاہ اللہ سینات مامکروا و حاق بال فرعون سوء العذاب“ (سورۃ غافر آیت ۲۵) اللہ نے اسے ان کی ان برائیوں سے چھالیا جو انہوں نے سوچی تھیں اور آل فرعون پر سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا۔“ (۱)

چغل خور کی قیامت خیزی

ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا اور خریدنے والے کو بتایا کہ اس غلام میں چغل خوری کے علاوہ باقی کوئی عیب نہیں ہے۔ خریدنے والے نے کہا: ”کوئی حرج نہیں، یہ اپنی چغل خوری سے بھلا ہمارا کیا گاڑے لے گا؟“

بہر نوں خریدار غلام کو ساتھ لے کر گھر آیا، غلام ایک مدت دراز تک نے مالک کے گھر میں قیام پذیر رہا۔

ایک دن اس نے اپنے مالک کی بیوی سے کہا: ”تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا وہ ایک جگہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تو سوکن سے چھا چاہے تو کسی طرح سے اس کی دلائل کے چند بال مجھے لا کر دے میں ان پر وظیفہ پڑھوں گا اور اس عمل سے تیرا شوہر را راست پر آجائے گا۔“

عورت نے کہا: ”میں آج رات جب کہ میرا شوہر سویا ہوا ہو گا اس

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی: ”تیرے صحابیوں میں سے ایک شخص تیرے متعلق چغل خوری کرتا ہے لہذا اس سے ہوشیار رہو۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ”پروردگار! میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تو خود ہی مجھے اس کے متعلق مطلع فرم۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”موسیٰ! ایک شخص نے چغل خوری کی مجھے اس کی یہ عادت پسند نہیں آئی اور اب تو خود مجھے چغل خور بنا چاہتا ہے؟“

حضرت موسیٰ نے عرض کی: ”پھر خدیا کیسے معلوم ہو؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم اپنے تمام اصحاب کو دس دس کے گروہ میں تقسیم کرو اور قرعہ اندازی کرو، قرعہ اسی گروہ کا نکلا گا جس میں وہ شخص موجود ہو گا، پھر مزید قرعہ ڈالو وہ شخص واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور انہیں دس دس کے گروہ میں تقسیم فرمایا اور کہا: ”اس طرح سے میں چغل خور کو معلوم کرنا چاہتا ہوں۔“

قرعہ ڈالا گیا، ایک گروہ قرعہ میں نکلا، حضرت مزید قرعہ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ شخص اس گروہ میں سے خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: ”حضرت آپ مزید قرعہ نہ ڈالیں، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ مجرم میں ہوں، میں آج سے خدا کے حضور اس فعل بد سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میری مغفرت کے لئے دعا فرمائیں۔“ (۱)

کتاب جامِ السعادات جلد دوم ص ۲۷۲ پر مرقوم ہے۔

۱۔ جمار الانوار ج ۱۳ ص ۳۵۳۔ چاپ آخوندی۔

کی داڑھی سے کچھ بال کاٹ لوں گی اور صح سویرے وہ بال تجھے دوں گی۔“ شام کے وقت اسی غلام بنے اپنے آقا سے کہا: ”میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کو یہ بات کبھی نہ کہتا، مگر اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے اس نے ایک شخص سے ناجائز تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور دونوں تمہاری عدم موجودگی میں ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں اور آج رات تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اگر قتل سے چھانا چاہتے ہو تو پھر بیدار رہنا۔“

رات ہوئی اس شخص نے کھانا کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تلوار اپنے بستر کے کنارے چھپا کر رکھی اور جھوٹ موٹ کے خرائے لینے لگا۔

کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کوئی اوزار لئے دبے پاؤں اس کے قریب آ رہی ہے اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے قتل کرنے کے لئے آ رہی ہے وہ فوری طور پر جست لگا کر انہا اور بیوی کو قتل کر دیا۔

جب عورت کے خاندان والوں نے سنا کہ اس نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور یوں دو قبیلوں میں کافی عرصے تک جنگ کے شعلے ہمہ رکتے رہے۔ (۱)

چغل خور اللہ کو کتنا ناپسند ہے؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

۱۔ سفید خ ۲۲ ص ۶۱۳۔

غیبت کی سزا

شیخ بیاء علیہ الرحمۃ اپنی کتاب سکول جلد اول صفحہ ۱۹۷ پر تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن کسی بڑے اجتماع میں میرا ذکر چھڑا تو یہی ہوئے حاضرین میں سے ایک شخص، جو ہمیشہ میرے منہ پر دوستی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن وہ اس دعویٰ میں جھوٹا تھا، نے میری غیبت شروع کر دی اور میری طرف بہت سی ناروا چیزوں کی نسبت دی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو فراموش کر دیا ”ایحاب احد کم ان یا کل لحم اخیه مینا“ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کریگا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جس طرح سے تمیں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے نفرت ہے اسی طرح سے غیبت سے بھی پر ہیز کرو۔

مجھے اس ”کرم فرما“ کی ”شفقت“ کا علم ہو گیا اور اسے بھی پا چل گیا کہ مجھے اس کی حرکت کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے مذہر خواہی کے لئے مجھے لمبا چڑا خط لکھا جس میں اس نے اپنے فلپر ندامت کا اظہار کیا اور مجھ سے راضی ہونے کی درخواست کی۔

میں نے اس کے جواب میں لکھا: ”خدا تمیں جزاے خیر دے، تم نے مجھے ایسا تھہ روانہ کیا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن میری برائیوں کا پڑا بلکا ہوا ہے اور میری نیکیوں کا پڑا بھماری ہوا ہے۔

فقد روينا عن سيدالبشر انه قال: ي جاء بالعبد يوم القيمة فتوضع
حسناته في كففة و سيناته في كففة فرجح السينات فتجيء بطاقة فتفق في
كففة الحسنات فترجح بها فيقول يارب ما هذه البطاقة؟ فما من عمل
عملته في ليلي و نهاري الا استقبلت به. فيقول عزوجل هذا ماقيل فيك

ایک دفعہ بنی اسرائیل بارش نہ ہونے کے سبب قحط میں مبتلا ہوئے۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰؑ کی خدمت میں آئے اور بارش کے نزول کے لئے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی۔

آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں دن سب جمع ہو کر فلاں میدان میں آجائیں وہاں ہم نماز استقاء پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اس دن سب خوردوکلاں میدان میں جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بارش کی دعا مانگی مگر بارش نازل نہ ہوئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ احادیث میں عرض کی: ”خدایا! ہم نے دعا مانگی مگر بارش نہیں ہوئی؟“

آواز قدرت آئی: ”موسیٰ! اس مجمع میں ایک چغل خور موجود تھا جو اپنے اس فعل بد پر اصرار کرتا ہے، اسی لئے میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ”خدایا! اس بدخت کا نام مجھے بتا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں تو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، بھلا خود چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں؟ تم تمام لوگوں سے کوکہ میری بارگاہ میں توبہ کریں میں ان کی دعا قبول کروں گا۔“

سب لوگوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور باران رحمت کا نزول ہوا۔

وانت منه بربی۔

حکم نبوت کے تحت تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا، افطار کے وقت ایک ایک کر کے مسلمان آتے رہے اور افطار کی اجازت لے کر روزہ افطار کرنے لگے۔

ایک مسلمان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی: ”آقا! میری دو جوان بیٹیاں ہیں، انہوں نے آپ کے فرمان کے تحت روزہ رکھا تھا اب انہیں یہاں آپ کے پاس آتے شرم محسوس ہوتی ہے ان کی طرف سے میں افطار کی اجازت لینے آیا ہوں۔“

سرورِ کائنات نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبادہ گزارش کی، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیری مرتبہ عرض کی تو آپ نے فرمایا: ”افطار کی اجازت لینے آئے ہو؟ تیری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا انہیں روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو صبح سے لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیٹیوں سے کو کہ اگر وہ روزہ دار تھیں تو قے کریں۔“

اس شخص نے بڑیوں سے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم قے کرو۔ جیسے ہی بڑیوں نے قے کی ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ اس شخص نے آگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفعتے کی خبر دی۔

آپ نے فرمایا: ”مجھے اس ذات کے حق کی قسم جس کے قبده قدرت میں میری جان ہے اگر ان کے شکم میں ایک ذرہ باقی رہ جاتا تو وہ دوزخ میں چلی جاتیں۔“ (۱)

۱۔ کشف الریبہ شمید علیہ الرحمہ عص ۲۸۷۔

ہم تک سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کو پیش کیا جائے گا اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور اس کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کی نیکیوں کا پلڑا بلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گا۔ اسی اثناء میں ایک بوری لا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا بلکا ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا کہ خدایا میں نے جو بھی نیکی کے کام کئے تھے وہ تو پلڑے میں پلے سے موجود تھے اور یہ بوری کمال سے آگئی؟ خداوند کریم ارشاد فرمائے گا کہ یہ ان باتوں کے عوض میں ہے جو تیرے متعلق کسی گئی تھیں اور تو ان سے بری تھا۔

اس حدیث کی رو سے میں تمہارا شکر گزار ہوں، اگر تم میرے سامنے بھی ایسا کرتے تو بھی میں اس جیسا بدله نہ دیتا اور تم مجھ سے معافی و دوستی اور وفا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھتے، اب تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے میں اسے مكافات عمل میں برپا کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں تو اس وقت اپنی سابقہ زندگی کی کمی پیشی کی ملائفی کرنا چاہتا ہوں۔“

مردہ بھائیوں کا گوشت نہ کھائیں

ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کل تمام مسلمان روزہ رکھیں اور افطار کے وقت پلے مجھ سے اجازت لیں اور پھر روزہ افطار کریں۔

غیبت کرنے والے کو صحابہ ناپسند کرتے تھے

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ چند صحابہ کرام جمع تھے۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو حاضرین میں سے کسی صحابی نے کہا: ”میں خدا کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔“

اس کی یہ بات سن کر صحابہ کرام نے اسے ملامت کی اور کہا: ”تو نے انتہائی غلط بات کی ہے ہم اس شخص کو تیرے خیالات کی اطلاع دیں گے۔“

چنانچہ اس صحابی کو اس گفتگو کی اطلاع دی گئی جو اسے سخت ٹاگوار گزرا ہو رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیبت کرنے والے صحابی کی شکایت کی۔ آپ نے اس صحابی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا: ”تم نے یہ کیا کہا ہے؟“

اس صحابی نے کہا: ”آقا! میں نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے۔“

حضور اکرم نے فرمایا: ”تم اس سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟“

اس صحابی نے کہا: ”آقا! میں اس کا قریبی ہمسایہ ہوں اور اس کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ یہ شخص دن رات میں واجب نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا۔“

شکایت کننے والے صحابی بولا: ”یار رسول اللہ! آپ اس سے پوچھیں کیا میں نمازوں تاخیر سے پڑھتا ہوں یا وضو غلط کرتا ہوں یا رکوع و سجود صحیح طرح سے جا نہیں لاتا؟“

غیبت کرنے والے صحابی نے کہا: ”نہیں! ایسی تو کوئی بات نہیں البت یہ شخص رمضان کے علاوہ کبھی کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ یہ صرف اس میں میں

غیبت کننے والے کو سرزنش

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: ”مولانا! فلاں شخص آپ کی طرف غلط نسبت دے کر کرتا ہے کہ آپ (نحوذ باللہ) گراہ اور بدعت گزار ہیں۔“

۱۔ جامع المسعادات ج ۲ ص ۲۹۶۔

اگرچہ وہ خدا کے سامنے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے متعلق جو ایسے امر کی نسبت دے جو اس میں موجود نہ ہو فهو خارج عن ولایۃ اللہ و داخل فی ولایۃ الشیطان (تو ایسا شخص اللہ کی دوستی خارج ہے اور شیطان کی ولایت میں داخل ہے)۔

پھر آپ نے فرمایا: ”میرے آبائے طاہرین علیم السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی مومن کے اس عیب کی غیبت کرے جو اس میں ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا اور اگر کسی مومن کے ایسے عیب کی غیبت کرے جو اس میں موجود نہ ہو انقطع العصمه بینهما و کان المفتاب فی النار خالدًا فیها و بنس المصیر (تو ان دونوں کے درمیان وہ عصمت ایمان ختم ہو جاتی ہے جو حقوق مومنین کی محافظ ہوتی ہے اور غیبت کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔)“ (۱)

ضروری گزارش

ایک معاشرے کے تمام افراد کا ایک دوسرے سے وہی تعلق ہے جو جسم میں اعضاء کا ہے یا جیسے ایک دیوار میں متفرق اینٹوں کا ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ کی پاسیداری کا ذریعہ ہوتی ہے اور جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کا مددگار ہوتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے آرام رہتا ہے اور ہر فرد ملت کے مقدار کا ستارہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کو فعال رکھنے کے لئے جہاں ان کی غذائی ضرورتوں کا پورا کرنا ضروری ہے وہاں ان کی

۱۔ بخار الانوار ج ۱۶ ص ۱۸۵، ۱۸۶۔

یہ سن کر آنحضرت نے فرمایا: ”تو نے اس کی بات مجھے بتا کر اس کی ہم نشینی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا اور تو نے یہ بات کر کے میرے حق کو بھی مجروح کیا ہے کیونکہ تو نے مجھے ایمانی بھائی کی طرف سے اگر وہ باتیں بتائیں جن سے میں ناواقف تھا اور قیامت کے دن اس کی اور میری ملاقات تو ہونی ہی تھی اس دن خدا کو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا تھا پھر اس کے باوجود تھے کیا پڑی کہ تو نے اس کی غیبت کی، غیبت سے پر ہیز کرو، غیبت دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے اور یاد رکھو جو لوگوں کے عیب زیادہ بیان کرتا ہے وہ درحقیقت لوگوں میں اپنے عیبوں کی جگجو کرتا ہے۔“

علامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ”کس شخص کی گواہی قبول ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”جو شخص فطرت اسلام پر ہو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔“

علامہ نے کہا: ”مولا! جس نے گناہ کئے ہوں یا گناہوں کے قریب ہو، اس کا کیا حکم ہے؟“

امام عالی مقام نے فرمایا: ”اگر کسی گناہگار کی گواہی قابل قبول نہ ہو تو پھر انبیاء و اوصیاء علیم السلام کے علاوہ کسی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ معموم صرف یہی ہستیاں ہیں۔

جس شخص کو تم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے نہیں دیکھا اور جس کے متعلق دو عادل گواہوں نے گناہ کی گواہی نہ دی ہو تو وہ شخص عادل ہے اور اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ ایسے شخص کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہئے

کے اہل خانہ تک نگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ انسانیت کے ماتھے پر لکنک کاٹیکہ ہیں۔

مُحَمَّدُ أَنْسٌ بْنُ مَالِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ إِلَيْهِ اللَّهِ وَمَا الْمُلْكُ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ يَسْعَى بِأَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ فِيهِلْكَ نَفْسَهُ وَيَهْلِكُ أَخَاهُ وَيَهْلِكُ السُّلْطَانَ (إِنَّ اهْلَنَسَاءِ مِنْ بَدْرِيْنِ شَخْصٍ تَيْرَاهُ)

آپ سے پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ! تیرا سے کون مراد ہے؟“
آپ نے فرمایا: ”(تیرا وہ شخص ہے) جو اپنے بھائی کی کسی صاحب اقتدار کے پاس چغلی کھائے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا اور اپنے بھائی کو ہلاک کرنے والا اور صاحب اقتدار کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔“

چند روایات

قال سليمان بن جابر اتیت رسول الله فقلت علمتني خيرا ينفعني الله به
قال لا تحقرون من المعروف شيئا ولو ان تصب من دلوك في انا
المستسى وان تلقى اخاك بشير حسن اذا ادبر فلا تغتابه.

وعن انس قال خطبنا رسول الله فذكر الربا وعظم الشأن فيه فقال ان
الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله في الخطيبة من ست وثلاثين
زينة يزنها الرجل وان اربى الربا عرض الرجل المسلم.

سلیمان بن جابر کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
کشف الربی شہید ص ۲۸۳

عزت نفس کو قائم رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے اور صاف ظاہر ہے کہ غیبت
اور چغل خوری سے دوسرے فریق کی عزت نفس مجرور ہوتی ہے اور اس کے
ساتھ غیبت کنندہ اور چغل خور بھی اہل عقل کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔

اسلام نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی کی عزت نفس کے
مجرور کرنے کا ذریعہ نہ نہیں اور یہ اپیل کائنات میں صرف مذہب ہی کر سکتا
ہے دنیاوی حکومتوں کا کوئی قانون انسان کی عزت نفس کا محافظ نہیں ہے۔

اسی لئے اسلام نے چغل خوری اور غیبت کو حرام قرار دیا ہے تاکہ
انسان ہر طرح کے سکون اور دل جمعی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں
مصروف رہیں اور معاشرے کے لئے کار آمد شری ثابت ہوں۔

حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”المؤمن عن
الكريم والفاجر حب لثيم و خير المؤمنين من كان مالفة للمؤمنين ولا خير
فيمن لا يولف ولا يولف. (مؤمن ہر طرح کے مکروہ فریب سے پاک و پاکیزہ
زندگی سفر کرتا ہے اور فاسق مکار اور حیله گر ہوتا ہے۔ بہترین مؤمن وہ ہے جو
لوگوں کی الفت کا محروم مرکز ہو اور اس شخص میں کوئی بھلانی نہیں جو نہ تو کسی
سے انس والفت رکھتا ہو اور نہ کوئی اس سے انس والفت رکھتا ہو۔“

کینہ توڑی اور فتنہ انگلیزی بھیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جو انسانیت کی
قدروں سے ناہل ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ انسان اس میں پوری
طرح سے محبت تک نہیں کر سکتا۔ نجاتے لوگ نفترتوں کے لئے کہاں سے
وقت نکال لیتے ہیں اور کینہ پرورد و فتنہ جو افراد انسانی صورت میں چلتے پھرتے
مجھوں ہیں جو انسانی معاشرے کو ڈس کر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد سے ان

وقال اياك و الغيبة فان الغيبة اشد من الزنا قالو وكيف الغيبة اشد من الزنا
قال لان الرجل يزني ثم يعوب قتاب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له
حتى يغفر له صاحبه.
وقال عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب.

"خار الانوار ج ۱۶ ص ۹۷"

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: "جو کسی مسلمان کی غیبت
کرے تو اللہ اس کی چالیس شب و روز کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرے گا
سوائے اس کے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کر دے۔"
آپ نے فرمایا: "جو شخص ماہ رمضان میں کسی کی غیبت کرے تو اسے روزوں کا
کوئی اجر نہیں ملے گا۔"

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: "قیامت کے روز ایک شخص کو مقام حساب میں لاایا جائے گا اور اس کا
نامہ اعمال اسے دیا جائے گا۔ اسے اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے
گی تو وہ کہے گا کہ پروردگار! یہ تو میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیونکہ اس میں مجھے
اپنی کوئی اطاعت نظر نہیں آتی۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ تیرا رب بھولئے
اور بھکھنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اس لئے تیرے عمل ختم
ہو گئے۔

پھر ایک اور شخص پیش ہو گا۔ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو اس میں
کئی نیکیاں نظر آئیں گی۔ وہ عرض کرے گا خدا یا! یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے
کیونکہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی تھیں۔ جواب ملے گا کہ غالباً شخص نے تیری

میں حاضر ہوا اور عرض کی: "آپ مجھے کسی ایسے نیک عمل کی تعلیم دیں جس
سے مجھے فائدہ پہنچے۔"

آپ نے فرمایا: "نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا اگرچہ اپنے ڈول سے کسی
کے ظرف میں پانی ڈالنے جیسا آسان عمل کیوں نہ ہو اور جب تم اپنے بھائی سے
ملو تو خندہ روئی سے ملو اور اس کی پشت پیچھے غیبت نہ کرو۔"

آن کہتے ہیں کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں خطبہ دیا جس میں آپ نے سود کا ذکر کیا اور اس کی شدید ندمت فرمائی اور
ارشاد فرمایا: "یاد رکھو سود کا ایک درہم اللہ کی نظر میں چھتیں ۳۶ مرتبہ زنا
کرنے سے بدتر ہے اور کسی مسلمان کی عزت و اکبر و کتابہ کرنا بدترین سود ہے۔"

قال النبي من اغتاب مسلما لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما
وليلة الا ان يغفر له صاحبه وقال من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم
يوجر على صيامه وعن سعيد بن جبير عن النبي انه قال انه يؤتى برجل يوم
القامة ويوقف بين يدي الله ويدفع اليه كتابه فلا يرى حسناته فيقول الهي
ليس هذا كتابي فاني لا ااري فيها طاعتي فيقال له ان ربك لا يصل ولا
ينسى ذهب عملك باغياب الناس ثم يؤتى باخزو يدفع اليه كتابه فيرى
فيها طاعات كثيرة فيقول ما هذا كتابي فاني ما عملت هذه الطاعات فيقال
لان فلانا اغتابك فدفع حسناته اليك وقال كذب من زعم انه ولد من
حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة اياك والغيبة فانها ادام كلام النار.
وقال ماعمر مجلس بالغيبة الا خرب من الدين فنזהوا اسماععكم من
استعمال الغيبة فان القائل والمستمع لها شريكان في الاثم.

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میں میں تمہیں تم میں سے بدترین افراد کی خبر نہ دوں؟“ صحابہ نے کہا: ”ضرور بتائیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارے اندر بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کر کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور ہمیشہ بے گناہ افراد کے عیب تلاش کرتے ہیں۔“

اوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ مِنْ : مَا تَابَ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ أَخْرُ منْ يَدْخُلُ
الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مَصْرًا عَلَيْهَا فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ.

”ارشاد القلوب“ (بلینی ص ۱۵۶)

الله تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی: ”جو غیبت سے تائب ہو کر مرے وہ سب لوگوں کے بعد جنت میں داخل ہو گا اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرادہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔“

غیبت کی تھی اس کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی گئی ہیں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”وہ شخص جھوٹا ہے جو خود کو حلال زادہ سمجھتا ہے اور وہ غیبت کر کے انسانوں کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت سے پرہیز کرو یہ دوزخ کے کتوں کی خواراک ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”غیبت سے جو مجلس آباد ہوتی ہے وہ دینی لحاظ سے تباہ ہوتی ہے۔ اپنے کانوں کو غیبت سے پاک رکھو کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ میں دونوں شریک ہیں۔“

آپ کا فرمان ہے: ”غیبت سے پرہیز کرو۔ غیبت زنا سے بھی برا جرم ہے۔“

صحابہ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! غیبت زنا سے برا جرم کیسے ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”جب زانی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک متاثرہ فریق اسے معاف نہ کرے۔“

آپ نے فرمایا: ”تین عمل عذاب قبر کا سبب ہیں:
۱۔ چغلی کھانا۔
۲۔ غیبت کرنا۔
۳۔ بھوٹ بولنا۔“

عن ابی عبد اللہؑ قال : قال رسول اللہؐ الا ابنکم بشرارکم قالوا بلی
يارسول اللہؐ قال المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون
للبراء المعايب.

”کشف الریبہ شید ص ۳۰۳“

باب ششم

توکل و تسلیم

ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ۔ (سورة طلاق آیت ۳)
اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لئے کافی ہے،
بے شک خدا اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔

خدا کے سواب سمارے عارضی ہیں

لام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تو اسی دن دو نئے قیدی زندان میں آئے۔ رات کو انہوں نے خواب دیکھا اور کہا: "اے یوسف! ہم نے خواب دیکھے ہیں، آپ ان کی تعبیر بتائیں۔"

ایک نے کہا: "میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔"

دوسرے نے کہا: "میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آگر اس میں سے نکلنے اٹھا اٹھا کر کھا

رہے ہیں۔"

آپ نے فرمایا: "زندان کا کھانا آنے سے قبل میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔"

پھر آپ نے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کی اور تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: "جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں وہ صلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کا بھیجا نوج نوج کر کھائیں گے اور جس نے اپنے آپ کو انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا وہ رہا ہو گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا۔"

آپ نے جیسے ہی یہ تعبیر بیان کی تو جس نے روٹیوں کا خواب دیکھا تھا کھل کھلا کر کہنے لگا: "میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، دراصل میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔"

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: "اہمیت اس بات کی نہیں کہ تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اب میری زبان سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں۔ اب یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اب ایسا ہی ہو گا جیسا کہ میں تجھے بتا چکا ہوں۔"

پھر جس قیدی کی رہائی کا یوسف علیہ السلام کو یقین تھا اس سے فرمایا: "جب تو رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی ہن جائے تو وہاں میرا ذکر کرنا اور مجھے قید سے رہائی دلانا۔"

قیدی نے وعدہ کر لیا۔ جب وہ آزاد ہو گیا اور بادشاہ کا ساقی بھی ہن گیا تو شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کا ذکر فراموش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید سات سال تک اس قید خانے میں قید رہے۔

ایک دن اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا: "اے یوسف!

بھیجا تھا تو نے خود ہی ”رب السجن احب الی“ کہ کر مجھ سے زندان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اگر تو زندان سے نکل آیا تھا اور رہائی چاہتا تھا تو کیا تو مجھے نہیں کہہ سکتا تھا ”فكيف استغثت بغيری ولم تستغث بي وتسالني ان اخرجك من السجن“ آخر تجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے کیوں مدد مانگی اور کیا میں تجھے زندان سے رہائی نہ دلا سکتا تھا؟“ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تو مزید سات سال اس زندان میں بسر کرے گا۔

﴿كَمْ لَدُونَ﴾ اسی داستان کا ایک اور حصہ

جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی ”بن یامین“ کو اپنے پاس روک لیا تو حضرت یعقوب نے انہیں خط لکھا تھا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا: ”ہمارا خاندان اس وقت آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے میرا نور نظر یوسف مجھ سے مچھر دیا اور اس کا چھوٹا بھائی بن یامین میرے پاس تھا اور میں اسے دیکھ کر زندگی کے لیام گزار رہا تھا مگر آپ نے میرے اس بیٹے کو بھی اپنے پاس روک لیا، آپ مریانی کر کے میرے بیٹے کو رہائی دیں اور میرے پاس روانہ کریں۔“

جب فرزندان یعقوب باب کا خط لے کر روانہ ہوئے تو جبریل امین اللہ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا تم سے یہ کرتا ہے: ”تم نے جن مصائب و آلام کی شکایت عزیز مصر سے کی ہے ان مصائب میں تمہیں کس نے بتلا کیا؟“

باب کے گھر میں تجھے خواب کس نے دکھایا تھا؟“ یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”اے پروردگار! تو نے ہی خواب دکھایا تھا۔“

پھر ارشاد ہوا: ”یعقوب“ کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی تھی؟“ یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”اے پروردگار! تو نے ڈالی تھی؟“ پھر آواز آئی: ”جب بھائیوں نے تجھے کنوئیں میں ڈالا تو نجات کے لئے دعا تجھے کس نے تعلیم دی تھی؟“

یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”خدیا! تو نے ہی دعا مجھے تلقین کی تھی۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”قافلہ کو اس دیران کنوئیں پر کون لا یا تھا؟“ یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”خدیا! تو ہی قافلہ کو وہاں لا یا تھا؟“

آواز قدرت آئی: ”تجھے شاہ مصر کے گھر پناہ دینے والا کون تھا؟“ یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”پروردگار! تو نے مجھے شاہ مصر کے گھر پناہ دی۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”عزیز مصر کی بیوی کے شر اور زنان مصر کے شر سے تجھے کس نے چلیا اور چھوٹے پچ سے تیری پاکد امنی کی گواہی کس نے دلائی؟“

یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ”خدیا! تو نے ہی سب کچھ کیا۔“ قدرت کی آواز آئی: ”اے یوسف! تجھے زندان میں میں نے تو نہیں

سورہ ص کی اس آیت ۳۲ کے متعلق تفسیر صافی ص ۷۲۳ پر امام

جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے:

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کو پینا عطا کیا تو جنات و شیاطین نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر سلیمانؑ کا یہ پینا زندہ رہا اور باپ کے بعد سریر آرائے سلطنت ہوا تو یہ بھی ہم سے وہی سلوک کرے گا جو اس کا باپ سلیمانؑ ہم سے کر رہا ہے۔ لہذا اس سے کسی نے کسی طرح سے جان چھڑالیں چاہئے۔ حضرت سلیمانؑ کو ان کی سازش کا علم ہوا تو آپؑ نے اپنے بیٹے کو شر شیاطین سے چجانے کے لئے ایسی جگہ کے متعلق سوچنے لگے جہاں ان کے ہاتھوں کی برسمانی نہ ہو۔ آخر کار حضرت سلیمانؑ نے اپنے بیٹے کو بادلوں کے درمیان بھیج دیا تاکہ وہاں رہ کرچہ شر شیاطین سے محفوظ رہ سکے۔“

چند دن گزرے تھے کہ ایک بے جان لاشہ ان کے تخت پر آگرا۔

حضرت سلیمانؑ نے دیکھا تو وہ لاشہ ان کے بیٹے کا تھا۔

سلیمان کے بیٹے کی موت سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں سلیمانؑ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس باوشاہ حقیقی کی تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا اور جن و شیاطین کا خوف بے سود ہے۔“

ابو حمزة ثمہانی امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ فتنہ ان زیر کے ایام میں ایک دن میں پریشان ہو کر گھر سے نکلا اور بیرونی دیوار کا سارا لئے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ناگماں ایک شخص جس نے دو سفید چادریں پہنی ہوئی تھیں، میرے سامنے اکر کھڑا ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر اس نے کہا: ”علیٰ بن الحسن! آخر تم پریشان کیوں ہو اگر تم دنیا کی وجہ سے پریشان ہو تو

یعقوب علیہ السلام نے عرض کی: ”اے پروردگار! تو نے تادیب کی غرض سے بھٹکایا ہے۔“

آواز قدرت آئی: ”میا کوئی میرے علاوہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟“

یعقوب علیہ السلام نے عرض کی: ”نمیں کوئی قدرت نہیں رکھتا۔“ خداوند عالم نے فرمایا: ”تو پھر مجھے چھوڑ کر اور سے شکایت کرتے ہوئے تمہیں خجالت محسوس نہیں ہوئی؟“

یعقوب علیہ السلام نے عرض کی: ”خدا! میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اس عمل پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔“

خداوند عالم نے فرمایا: ”اے یعقوب! اب جب کہ تم میری بارگاہ میں متوجہ ہو چکے ہو اور توبہ و استغفار کر چکے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری آزمائش میں نے ختم کر دی اب تمہیں صرف بن یا مین ہی نہیں بلکہ یوسفؑ گم گشتہ بھی ملے گا اور تمہاری کھوئی ہوئی یعنی بھی لوٹاؤں گا۔“ (۱)

﴿ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں ﴾

قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ولقد فتنا سلیمان والقینا علیٰ کرسیہ جسد اتم انا ب۔ (بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جسم کو ڈالا پھر اس نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کی۔)“

میں نے کہا: ”نہیں۔“

اس کے بعد وہ شخص اچانک نیری آنکھوں سے او جھل ہو گیا۔ (۱)

مشکلات میں کس کا سمارالینا چاہئے؟

محمد بن عجلان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ سخت تجھ دستی میں بتلا ہوا اور میری اس تجھ دستی کی وجہ سے میرے تمام دوست مجھے چھوڑ گئے۔ تجھ دستی کے ساتھ ساتھ میں قرضہ کے بوجھ تسلی دبا ہوا تھا اور قرض خواہ مجھ سے بڑی شدت سے قرضہ کا تقاضہ کرتے تھے۔

اس وقت مدینے کا حاکم حسن بن زید تھا اور وہ میرا واقف تھا، میں نے دل میں سوچا کہ اس مشکل گھری میں اس سے مدد کی درخواست کرنی چاہئے۔

۱۔ حصار الانوار ج ۱۵ ص ۱۵۲۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ مجلیؒ لکھتے ہیں کہ لام حسین علیہ السلام کی شادت کے بعد اکثر الٰہی جائز نے عبد اللہ بن زیر کی بیعت کری تھی۔ یہ شخص الہیت طاہر بن کا بدترین دشمن تھا۔ اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے ٹھوپی لگ سکتا ہے کہ اس نے نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور کہتا تھا کہ درود سے بھی ہاشم مغفرہ ہو جاتے ہیں۔

اس کا باپ زیر، حضرت علیؑ کے ہوانوہوں میں شمار ہوتا تھا لیکن جب یہ جوان ہوا تو باپ کو مولائے کائنات کا مخالف بنا دیا۔ حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک زیر کا یہاں جوان نہیں ہوا زیر ہمارے ساتھ رہا۔

جس شخص نے لام زین العابدین سے گفتگو کی تھی ممکن ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو اور انسانی صورت میں آپ کے پاس آیا ہو یا حضرت خضریؑ یا الیاسؑ میں سے کوئی ہرگز ہوں اور اس حقیقت کو ذہن نہیں رکھنا ضروری ہے کہ لام زین العابدین ان سب سے زیادہ عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے یا جناب خضریؑ یا الیاسؑ میں سے بطور یادہ بانی لام عالی مقام کے پاس بھجا تھا اور یادہ بانی کے مقصد کے حصول کے لئے پیغمبر اکرمؐ پر بھی فرشتے ہائل ہوتے تھے۔

تمہیں اس کے لئے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رازق حقیقی نے تمام بیک و بد افراد کا رازق مقرر کر دیا ہے جو انہیں بھر صورت مل کر رہے گا۔

یہ بات سن کر میں نے کہا: ”میں رازق کی وجہ سے قطعاً پریشان نہیں ہوں، رازق کے متعلق جو کچھ تم نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔“

اس نے کہا: ”اگر آخرت کی وجہ سے فکر مند ہو تو تمہیں اس کے لئے بھی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آخرت کا مالک عادل و قادر ہے وہ کسی پر رانی برادر ظلم نہیں کرے گا۔“

میں نے کہا: ”تم درست کہتے ہو میں آخرت کی وجہ سے بھی فکر مند نہیں ہوں۔“

اس نے کہا: ”تو تم کس وجہ سے پریشان ہو؟“

میں نے کہا: ”میں ان نیر کے فتنے اور اس کے ظلم و تشدد کی وجہ سے پریشان ہوں۔“

اس نے ہنس کر کہا: ”علیؑ عن الحسینؑ! کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے خدا کو پکارا ہو اور خدا نے اسے جواب نہ دیا ہو؟“

میں نے کہا: ”نہیں۔“

اس نے کہا: ”بھلام تم نے کسی ایسے شخص کا بھی مشاہدہ کیا جس نے خدا پر توکل کیا ہو اور اللہ نے اس کی حفاظت نہ کی ہو؟“

میں نے کہا: ”نہیں۔“

اس نے کہا: ”تو کیا تم نے کبھی کسی ایسے سائل کو بھی دیکھا ہے جس نے خدا سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور اللہ نے اس کا سوال پورا نہ کیا ہو؟“

من ملکی مثل جناح بعوضة و کیف ینقص ملک انا قیمه فیا باس لمن
عصانی ولم یراقبی.

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! جو مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید والستہ
کرے گا میں اسے نامید کروں گا اور دوزخ میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور
اسے کشاںش اور اپنے فضل سے دور رکھوں گا۔ میرا ہدہ شدائند و مشکلات میں
مجھے چھوڑ کر میرے غیر سے امید والستہ کرتا ہے جبکہ شدائند میرے ہاتھ میں
ہیں۔ یا میرے علاوہ کسی اور سے دل لگاتا ہے جبکہ میں بے نیاز اور سختی ہوں۔
تمام ہدہ دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ ہر لپکار نے
والے کیلئے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو کیا مصائب میں گرفتار ہونے والوں کو یہ علم
نہیں ہے کہ میرے علاوہ انہیں اس گرفتاری سے کوئی نجات نہیں دے سکتا؟
آخر انہوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کر اور طرف جاتے
ہیں؟ جبکہ میں سوال سے بھی پہلے جود و کرم کرتا ہوں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے
سے سوال کیا تو میں نے قبول نہیں کیا؟ یہ بات ناممکن ہے تو کیا سخاوت و کرم
کا مالک نہیں ہوں اور کیا دنیا و آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟
اگر سات آسمان اور سات زمینوں پر رہنے والے مجھ سے اپنی حاجات
طلب کریں اور میں ہر سائل کی درخواست پر اسے عطا کرتا رہوں تو پھر کے
پر کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی واقع نہ ہوگی اور وہ ملکیت کم کیسے ہو سکتی
ہے جس کا نگہبان میں ہوں؟
پس وہ شخص بڑا بدخت ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میری
اطاعت کا لحاظ نہیں کرتا۔“

میں یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں امام زین العابدین علیہ
السلام کے پوتے محمد بن عبد اللہ کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی میری تنگ دستی سے
خوبی واقف تھے۔

انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”کمال جا رہے ہو؟“
میں نے بتایا کہ میں تنگ دستی کی وجہ سے مجبور ہو کر والی کے پاس جانا
چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ ان حالات میں میری مدد کر دے۔
انہوں نے کہا: ”اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو تمہیں اس سے کچھ بھی
وصول نہ ہوگا۔ تم اس کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرو جو تمہاری حاجت
پوری کر سکتا ہے اور وہ اکرم الراکریں ہے۔ میں نے اپنے پچازاد بھائی امام جعفر
صادق علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی:

وعزتی وجلالی لاقطعن امل کل مؤمل غیری بالباس ولا کسونه
ثوب الذلة في النار ولا بعده من فرجی و فضلي ایؤمل عبدی في
الشدائد غيری والشدائد بیدی او بر جو سوای وانا الغنی الججاد بیدی
مفاتیح الابواب وہی مغلقة و بابی مفتوح لمن دعائی۔ الم یعلم انه ما
ادھته نائیۃ لم یملک کشفها غیری فمالی ارادہ یاملہ معرضا عنی قد
اعطیتہ بجودی و کرمی مالم یسالنی وسائل فی نائبته غیری وانا اللہ
ابتداء بالعطیة قبل المسنلة افسیل فلا اجیب کلا۔ اولیس الجود
والکرم لی اولیس الدنیا والآخرة بیدی؟ فلو ان اهل سبع سموات
والارضین سألونی جمیعا فاعطیت کل واحد منهم مسألته مانقص ذمک

آتش کدہ کے قریب ایک اوپنچا چبوتر اہلیا گیا تاکہ نمرود اس پر بیٹھ کر خلیل کے جلنے کا تماشہ دیکھ سکے۔

الغرض آگ بھرو کائی گئی یہ آتش کدہ کوفے کے قریب نمر کوٹا کے قریب بنا لیا گیا تھا۔ چشم زدن میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ناممکن ہو گیا۔

شیطان نے انہیں بتایا کہ تم ایک مبنیق تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینکو۔

چنانچہ ابراہیم کو مبنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا گیا، کائنات کی ہر چیز نے زبان حال سے ابراہیم کی سفارش کی، زمین نے زبان حال سے کہا: ”خدایا! میری پشت پر اکیلا ابراہیم ہی تیری عبادت کرتا ہے اور خالم اسے بھی نذر آتش کرنا چاہتے ہیں۔“

ملائکہ نے عرض کی: ”خدایا! آج تیرا دوست اور خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے کیا تو اسے نہیں چھائے گا؟“

اواز قدرت آئی: ”اگر ابراہیم نے مجھے پکارا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔“

جریل نے عرض کی: ”خدایا! روئے زمین پر اکیلا ابراہیم ہی تیری عبادت کرنے والا ہے آج وہ بھی آگ کے شعلوں میں جا رہا ہے۔“

ندائے قدرت آئی: ”اے جریل! خاموش رہو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں اسے نجات دوں گا اور اس کی دعا قبول کروں گا۔“

جریل، ابراہیم کے پاس آئے اور کہا: ”تمہاری کوئی حاجت ہو تو تو

محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”اے فرزند رسول! یہ حدیث آپ مجھے دوبارہ سنائیں، انہوں نے وہ حدیث مجھے تین مرتبہ سنائی تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اب کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا اور کسی سے دست سوال دراز نہیں کروں گا۔“

چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے حالات درست کر دیئے اور اللہ نے مجھے تگ دستی سے نجات ولائی اور میرے تمام قرض اواکر دیئے۔ (۱)

لکھنؤں یقین حضرت ابراہیم خلیل اللہ

جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت توڑے تو نمرود نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

قالوا حرقوہ و انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ (سورۃ انہیاء آیت ۲۸) انہوں نے کہا: ”اگر کچھ کرنا ہے تو اسے آگ میں جلا کر اپنے خداوں کی مدد کرو۔“

ایک بہت بڑا آتش کدہ ابراہیم کے لئے بنایا گیا جس میں ایک مدت تک لکڑیاں ڈالی گئیں۔ بت پرستوں کے لئے ابراہیم کو آگ میں جلانا اس قدر اہم تھا کہ کئی بیڑھے اور بیمار افراد نے اس زمانے میں مرنے سے قبل وصیت کی کہ ان کی جائیدا و کامنا حصہ پیچ کر لکڑیاں خرید کی جائیں جن سے ابراہیم کو جلا یا جائے۔ بہت سی غریب عورتوں نے اون کا تنے کی اجرت آتش کدے کے متولیوں کے حوالے کی۔ اس کا رخیر میں ہمارا حصہ بھی شامل کرلو۔

(اے اللہ، اے واحد، اے احد، اے صمد، اے وہ ذات جو کسی کا باپ نہیں اور جو کسی کا پیٹا نہیں اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، اپنی رحمت سے مجھے الگ سے نجات دے۔)

دعا مانگنے کی دیر تھی کہ الگ کو حکم پروردگار ہوا: ”یادار کونی بردا۔ اے الگ! مُحَمَّدُک عن جل۔“ الگ فوراً مُحَمَّدی ہو گئی اور سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دانت بخن لگے۔ پھر قدرت کی آواز آئی: ”وَسَلَّمًا. سَلَامٌ عَنْكَ“ جل۔ ”اتنی مُحَمَّدُک نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے اور اتنی گرمی نہ ہو کہ ابراہیم کو پسند آئے معتدل من جا اور سلامتی عن جل۔ الگ گزار ہو گئی، نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ جریل بیٹھے ہیں اور ابراہیم ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔

”فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَمْرُودُ فَقَالَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا فَلِيَتَخْذِلْ مِثْلَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ.“ نمرود نے یہ منظر دیکھ رکبے ساختہ کہا: ”جو اپنے لئے خدا بنا چاہتا ہو تو اسے چاہئے کہ رب ابراہیم کی طرح اپنے لئے خدا ہائے۔“ (۱)

پھر کے اندر حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟

ملک الموت ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”دیدار کے لئے آئے ہو یا قبض روح کے لئے آئے ہو؟“

۱) استخداہ از چند روایات حصار الانوار ج ۱۳ ص ۲۲، ۲۲ و آمدن ملائکہ برائے نجات ابراہیم از سنبھیجن ۲ جس ۶۸۳۔

ہیان کرو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔“
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”اَمَا اِلَيْكَ فَلا ، حَسْبِ اللَّهِ وَنَعِمُ الْوَكِيلُ۔“

(تیری طرف میری کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہرین کار ساز ہے۔)

میکائیل آئے اور عرض کی: ”اگر آپ پسند کریں تو میں بارش اور پانی کے ذریعے سے الگ کو مجاہدوں؟“

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”نہیں۔“

پھر ہوا کافرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا: ”اگر آپ حکم کریں تو میں ہوا کے زور سے اس تمام الگ کو پر آنڈہ کر دوں اور آپ کو چالوں؟“

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”نہیں۔“

پھر جریل لئن نے عرض کی: ”پھر آپ اپنے خدا سے دعا مانگیں تاکہ وہ آپ کو نجات دلائے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”حسبی من سوالی علمہ بحالی۔“

(مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ میرے حال سے ہنومی واقف ہے۔)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی ”یا اللہ و یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یوولد و لم یکن له کفوأ احد نجني من النار بر حمتك“

کی: ”خدیا! میں مزید مہلت چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے اس پھے سے بہت مانوس ہوں اور نجاتے میرے بعد اس کے نام و نفقہ کا کیا نہ۔“

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: ”موسیٰ! دریا پر جاؤ اور اپنا عصا پانی پر مارو، دریا شگافتہ ہو گا اور دریا کے درمیان سفید رنگ کا پتھر نمودار ہو گا، پتھر پر عصا مارنا اور میری قدرت کا کرشمہ ملاحظہ کرنا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر گئے، عصا مارا، دریا شگافتہ ہوا اور سفید رنگ کا پتھر وہاں دیکھا، پھر آپ نے پتھر پر عصا مارا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پتھر کے عین درمیان میں ایک کیرا بیٹھا تھا جس کے منہ میں سبز پتہ تھا جسے وہ چبارہا تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک چھوٹا سا گزر تھا۔

جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر یہ دیکھا تو اس وقت آواز قدرت آئی: ”اوے موسیٰ! تم نے میری رزاقیت کا یہ منظر دیکھا، جب دریا کے درمیان اور سخت پتھر کے اندر میں نے ایک کیرا پیدا کیا ہے تو میں نے اسے بھی رزق روزی سے محروم نہیں رکھا۔ جب میں نے اسے پتھر کے اندر بھی رزق فراہم کیا ہے تو کیا میں تمہارے پھے کو فراموش کر دوں گا؟ اولاد کے لئے تمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان کا نگہبان ہوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا: ”تم اپنے رب کے فرمان کی تعییل کرو۔“

ملک الموت نے فوراً ان کی روح قبض کر لی۔^(۱)

ملک الموت نے کہا: ”میں قبض روح کے لئے آیا ہوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”تو اتنی اجازت دو کہ میں اپنے والدہ اور خاندان سے الوداع کہہ سکوں۔“

ملک الموت نے کہا: ”میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”تو اتنی اجازت دو کہ میں پروردگار کا سجدہ کر سکوں۔“

ملک الموت نے کہا: ”اجازت ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور خدا کے حضور عرض کی: ”خدیا! ملک الموت کو حکم دے تاکہ وہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی والدہ اور خاندان سے الوداع کر سکوں۔“

اللہ تعالیٰ نے عزائیل کو حکم دیا کہ موسیٰ کو اتنی مہلت دے دو کہ وہ اپنی والدہ اور خاندان کو الوداع کہہ سکیں۔

اجازت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی: ”ای جان! مجھے اجازت دیں مجھے سفر پر جانا ہے۔“

والدہ نے فرمایا: ”کون سے سفر پر جا رہے ہو؟“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ”سفر آخرت درپیش ہے۔“

یہ سن کو والدہ بہت روئیں اور بیٹے کو الوداع کہا۔

پھر آپ اپنے بیوی پھوں کے پاس گئے اور انہیں الوداع کہا۔ آپ کا ایک چھوٹا تھا وہ آپ سے پڑ گیا، کسی طریقے سے آپ کو چھوڑنے پر آمادہ شہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھے کی محبت سے بہت متاثر ہوئے اور عرض

توكل کرنے والا کبھی نہیں بھختا ﷺ

حمدہ من حسیب کو فی کامیان ہے کہ ایک سال میں ایک قافلہ کے ساتھ
حجیت اللہ کے لئے روانہ ہوا۔ جب ہم نے منزل زبالہ سے کوچ کیا تو سخت سیاہ
آنہ حی چلی اور آندھی اتنی سخت تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا اس دوران
میں قافلے سے بخوبی گیا۔

جب تاریکی کا زور پکھ کم ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بے آب و
گیاہ میدان میں تھا پلیا، دور سے مجھے ایک درخت نظر آیا، میں اس درخت کے
پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس
کے جسم سے مشک و عزبر کی خوشبو آرہی تھی، وہ بھی اسی درخت کی طرف
آ رہا ہے۔

میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہو گا، میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ
کر لیا تاکہ وہ جوان مجھے یہاں دیکھ کر کسی اور طرف نہ چلا جائے۔
کچھ دیر بعد وہ جوان آیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا اور اس نے یہ دعا
پڑھی: "یامن حاذ کل شیء ملکوتا و قهر کل شیء جبروتا صل علی
محمد وآل محمد و اولج قلبی فرح الاقبال عليك فالحقنی بمیدان
المطیعین لک۔"

(اے وہ ذات جس کی قدرت و جبروت ہر چیز پر حاوی ہے، محمد وآل
محمد پر درود بھج اور میرے دل میں اپنے حضور حاضر ہونے کی خوشی داخل فرمای
اور اپنے اطاعت گزاروں کے میدان میں مجھے ملتق فرماء۔)"۔

پھر جوان نے نماز شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے

آنسوؤں کا چشمہ بہہ رہا تھا۔

میں نے بھی نماز شروع کی اور جوان کی اقدامے میں کھڑا ہو گیا اور اس
وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے لئے ایک محراب ساعن گیا ہے، جوان جب
کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا جس میں وعدہ و عید ہوتی تو اس کی آہ و نالہ کی
صدائیں بلند ہوتیں۔

نماز کی سیکھی کے بعد جوان نے رو رو کریے دعائیں: "یامن قصده
الضالون فاصابوہ مرشدًا وامه الخائفون فوجدوه معقلًا ولجأ اليه
العبدون فوجدوه مونلامتی راحۃ من نصب لغيرك بدنه ومتی فرح من
قصد سواك بهمته، الهی قد تقضی العظالم و لم اقض من خدمتك و طرا ولا
من حیاض مناجاتك صدرا صل علی محمد و آل محمد و افعل بی اولی
الامرین بك يا ارحم الراحمین۔"

(اے وہ ذات جس کا قصد را گم کرنے والوں نے کیا تو انہوں نے
اے راہ نما پایا اور خوف زدہ لوگوں نے اس کی بارگاہ کا ارادہ کیا تو اسے پناہگاہ پایا
اور جس کی طرف عابدوں نے رجوع کیا تو انہوں نے اسے اپنا طبا و ماوی پایا، اسے
راحت نصیب نہ ہو گی جو تیرے غیر کی خدمت میں اپنے بدن کو پیش کرے گا
اور اسے کبھی خوشی نصیب نہ ہو گی جو تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے گا۔

پورا دگار! اب جبکہ تاریکی چھٹ پچھی ہے لیکن ابھی تک میں تیری
کماحقة خدمت نہ کر سکا اور تیری مناجات کے سرچشمے سے ابھی تک میرا سینہ
نہیں بھرا۔ محمد وآل محمد پر درود بھج اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شان کریں
کے مطالبیں ہو، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔)"۔

کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے۔ جیسا کہ ذیل کی روایات اس کی موئید ہیں:
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے تو بنتی اسرائیل ان
کی عیادت کے لئے آئے اور ان سے کہا: ”آپ“ قلاں جڑی بوٹی کو بطور دوا
استعمال کریں تو آپ تند رست ہو جائیں گے۔“

حضرت موسیٰ نے کہا: ”لا اندادی حتیٰ یعافینی اللہ من غیر دواء.
(میں دوائیں کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے تند رستی عطا کرے گا۔)“

آپ کافی مدت ہمارے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی: ”مجھے
اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک تم اس جڑی بوٹی سے اپنا علاج نہیں کرو گے
جس کے متعلق بنی اسرائیل نے تمہیں کہا ہے، اس وقت تک میں تمہیں
تند رستی نہیں دوں گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا کر کہا کہ جو دوائی تم نے تجویز
کی تھی وہ میرے پاس لاو۔ دوائی لائی گئی۔ انہوں نے استعمال فرمائی اور چند
دنوں میں صحیاب ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کہی دنوں تک چھپتی
رہی کہ اللہ اگر بغیر دیلے کے شفا عطا کر دیتا تو اس میں کیا عیب تھا؟
جب آپ طور سینا پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اردت ان تبطل
حکمتی بتولک علیٰ فمن اودع العقا قیر منافع الاشیاء۔

(اے موسیٰ! تم مجھ پر توکل کر کے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے
ہو ان بویشوں میں یہ فائدہ کس نے رکھے ہیں؟)“

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عابد و زائد شخص عبادت کی غرض

حمد کرتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ جوان کمیں اب میری آنکھوں
سے او جھل نہ ہو جائے اور پھر مجھے نہ مل سکے تو جلدی سے میں انھا اور اس کے
دامن کو پکڑا اور کہا: ”تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھ سے ملال و رنج کو دور
رکھا ہے اور جس نے تجھے لذت عبادت عطا کی ہے مجھ پر رحم کر میں راستے
سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں مجھے منزل مقصود پر پہنچا۔“

جوان نے میری درخواست سنی تو کہا: ”اگر تو سچائی اور دل کی پاکیزگی
سے اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی نہیں بخسے گا، اب میرے چیخپے چلا آؤ اور
میری قیص کے دامن کو پکڑ لے۔“

میں نے ایسا ہی کیا، مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں
سے زمین نکل رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جوان نے کہا: ”لو تمہیں مبارک ہو
یہ مکہ معظمه ہے اور امید ہے کہ تمہارے کانوں میں حاجیوں کی آوازیں آرہی
ہوں گی۔“

حمد کرنے ہیں کہ میں نے جوان کو قسم دے کر کہا: ”تجھے اس ذات کی
قسم جس سے روز قیامت تمہاری امید و امانت ہے، اپنا تعاف کراؤ۔“

جوان نے کہا: ”تو نے قسم دی ہے تو پھر سن لے میں علی عن الحسین
عن علی عن اہل طالب ہوں۔“ (۱)

بر توکل زانوئے اشتربند

توکل کے لئے اسباب کی ضرورت ہے۔ اسباب فراہم کے بغیر توکل

۱۔ حوالہ الفوارق ۱۱ ص ۲۳۔

مرض کو صحت اور موت کو زندگی سے بہتر جانتا ہوں۔“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”لیکن میرا حال ایسا نہیں ہے، اگر اللہ مجھے پیری دے تو میں پیری کو اور اگر جوانی دے تو جوانی کو اگر مرض دے تو بیماری کو اور اگر شفا دے تو صحت کو اور اگر موت دے تو موت کو اور زندگی دے تو زندگی کو اچھا سمجھتا ہوں۔“

یہ سن کر جلاد اپنے مقام سے اٹھے اور امام محمد باقرؑ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا: ”آپؑ کے ننانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق فرمایا تھا کہ جلاد! تم لمبی عمر پاؤ گے اور حسینؑ کے پوتے سے ملوگے جو دفن شدہ علم کو زمین سے ایسے ہی شکافت کر کے نکالے گا جیسا کہ ہیل زمین کو شکافت کرتا ہے اور اس کا لقب باقر ہو گا۔

اہل تسلیم و رضا کا مقام

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت میری امت کے ایک گروہ کو بد عطا کئے جائیں گے اور وہ پرواز کر کے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے اور نعمات جنت سے استفادہ کریں گے۔

فرشتہ ان سے پوچھیں گے: ”کیا تم نے حساب کی ختنی دیکھی ہے؟“ وہ کہیں گے: ”ہم سے کوئی حساب نہیں لیا گیا۔“

فرشتہ پوچھیں گے: ”کیا تم صراط سے گزر کر آئے ہو؟“ وہ کہیں گے: ”ہم نے کوئی صراط نہیں دیکھی۔“

فرشتہ ان سے پوچھیں گے: ”کیا تم نے دوزخ دیکھی ہے؟“

سے آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جائیٹھا اور دل میں عمد کیا کہ میں رزق و روزی کے لئے کسی قسم کے اسباب فراہم نہیں کروں گا، میرا اللہ غیب سے مجھے رزق عطا کرے گا۔

ایک دن گزار کیس سے عابد کے پاس رزق نہ آیا، دو دن گزرے کیس سے رزق نہ آیا، علی ہذا القیاس عابد کو پورے سات دن گزر گئے کیس سے رزق نہ آیا، عابد بھوک کی وجہ سے ٹھہرال ہو گیا اور عرض کی: ”خدیا! جو تو نے میرا رزق مقرر کیا ہے یہیں عطا فرماؤ نہ مجھے موت دے دے۔“

ہاتھ کی اسے یہ ندائی وی: ”وعزتی و جلالی لا ارزقك حتى تدخل الامصار و تقدع بين الناس۔“

(مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس طرح سے میں تجھے رزق نہیں دوں گا جب تک تو کسی آبادی میں جا کر کوئی کام نہ کرے) تو میری حکمت خلقت کو ضائع نہ کر میں ہندوں کے ہاتھوں ہندوں کو رزق پہنچانا بہتر سمجھتا ہوں اور برہا راست رزق دینا میری حکمت کے خلاف ہے۔ (۱)

تسلیم و رضا کا مفہوم

حضرت جلاد بن عبد اللہ النصاری امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت وہ ضعیف ولا غر ہو چکے تھے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جلاد! کیا مراج ہے؟“ انہوں نے کہا: ”مولا! اب تو میرا حال یہ ہے کہ ضعیف کو جوانی اور

۱۔ درج بالا دونوں روایات جامع المساعدات ج ۳ ص ۲۲۷ سے ماخوذ ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتایا کہ اب بارش تمہاری
مرضی سے برسا کرے گی۔

چنانچہ اس سال بنی اسرائیل نے بہت بڑے بقے پر فصل کاشت کی،
جب انہیں ضرورت ہوتی بارش برستی اور جب ضرورت نہ ہوتی تو بارش نہ
برستی۔

اس سال ان کی کھیتیاں لمبا نے لگیں اور کھیتوں میں خوب ہریاں پیدا
ہوئی جب ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی اور انہوں نے فصل کافی اور گہماً کا
وقت آیا تو وہ یہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ خوشوں میں دانے نہیں تھے۔

بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا: ”ہم نے بارش کا
نظام الادوات اپنی مرضی سے مقرر کر لیا، ہم چاہتے تھے کہ ہمیں فائدہ ہو لیکن
اس کا نتیجہ صحیح نہیں تھا ہمیں فائدہ کی جائے نقصان ہوا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کے دوران عرض کی
کہ خدیا میری قوم کو شکوہ ہے کہ اس مرتبہ فصلوں میں انہیں سخت نقصان
اٹھانا پڑا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یا موسیٰ انا کفت المقدر لبني اسرائیل فلم
یرضوا بتقدیری فاجتہم الی ارادتهم فکان مارایت۔
(موسیٰ میں جیسا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے لئے فیصلہ کیا کرتا تھا لیکن
وہ میری تقسیم اور تقدیر پر راضی نہیں ہوئے، میں نے ان کی خواہش پوری
کر دی تو اس کا نتیجہ وہی تکلا جو تم نے دیکھا۔)“ (۱)

۱۔ خوار الانوار ج ۱۳ ص ۳۲۳ نقل از کافی۔

وہ کہیں گے: ”ہمارے راہ میں دوزخ نہیں آگی۔“

پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے: ”تم کس نبی کی امت ہو؟“
وہ کہیں گے: ”ہم محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔“

فرشتے ان سے کہیں گے: ”تمیں خدا کی قسم! یہ بتاؤ تم دنیا میں کونا
عمل کرتے تھے جس کی بدولت تمیں یہ مقام نصیب ہوا؟“

وہ جواب دیں گے: ”ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے
اللہ نے ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا ہے، ہماری پہلی خصلت یہ تھی
”اذخلونا نستحبی ان نعصیہ“ ہم خلوت کے لمحات میں اللہ کی نافرمانی کرنے
سے حیا کرتے تھے اور ہماری دوسری خصلت یہ تھی ”ونرضی بالیسیر مما
قسم لنا“ اور ہم اپنے مقدر کے تھوڑے حصے کو پا کر بھی راضی رہتے تھے۔
یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ واقعی تم اسی مقام کے حقدار تھے۔ (۱)

لکھنؤ تسلیم نہ کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے
موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی: ”آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ
بارشوں کا نظام ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہئے، جب ہم ضرورت محسوس
کریں تو بارش ہو جائے اور جب ضرورت نہ ہو تو بارش نہ بر سے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احادیث میں ان کی درخواست
پیش کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

۱۔ جامع المسحالات ج ۳ ص ۲۰۲۔

حقیقت توکل

توکل کا یہ مقصد ہے کہ خبر تیز رکھ اپنا
نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر
اسلام نے روحاںی ارتقاء کے لئے اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا ہے
تاکہ انسان اعلیٰ اخلاق کے مراحل طے کر کے معاشرے میں اہم مقام حاصل
کرے۔ لیکن آج کا مادیت پرست مغرب زدہ شخص اخلاقیات کی قدر و قیمت سے
واقف نہیں ہے۔ اسی لئے وہ کبھی اخلاقی اقدار کو اساطیر الادلین سے تعبیر کرتا
ہے اور کبھی اسے کمزوروں کا ہتھیار قرار دیتا ہے اور جہاں اور بہت سی اخلاقی
اقدار کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے ان میں توکل سرفراست ہے۔
مغرب زدہ طبقہ اس کی غلط تعبیر و تشریح کر کے لوگوں کی نظر میں
سے بد نہما قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ انسان دروازہ بند
کر کے بیٹھ جائے اور رزق کا انتظار کرنے لگ جائے۔ یا زراعت کے بغیر گندم
کے کھلیان کی امید کی جائے اور ہتھیاروں کے بغیر جنگ جیتنے کی توقع کی جائے۔
ہم علی وجہ البصیرت کہ سکتے ہیں کہ یہ تعبیر و تشریح بالکل غلط ہے،
اسلام اس طرح کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ حقائق کی تعلیم دیتا ہے،
توکل قطع اسباب کا نام نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسباب میا کئے جائیں
اور نتیجے کے لئے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔
ہم ایک مثال کے ذریعے سے حقیقت توکل کو واضح کرنا چاہتے ہیں:
جنگ کے میدان میں ایک پاہی ایسا موجود ہے جو ضعیف الاعتقاد
ہے، اگرچہ اس کے پاس اسلحہ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہر وقت خوف زدہ ہے

سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا

اختف من قیس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے پیچا حضرت صحمد
بن صوحان کے پاس اپنے حالات کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور
کہا: ”بیچے! جب تم کسی تکلیف کی کسی کے پاس شکایت کرو گے تو وہ دو حال سے
خالی نہ ہوگی：“

- (۱) جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دوست ہو گا تو وہ تمہاری تکلیف سن
کر افرادہ اور پریشان ہو جائے گا۔
- (۲) یا جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دشمن ہو گا اور وہ تمہاری تکلیف
سن کر الٹا خوش ہو گا۔

خلوق کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت مت کرو کیونکہ وہ تمہاری
تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنی مصیبت اور درد کی شکایت کرنی ہے
تو اس کے سامنے کرو جس نے تمہیں اس میں بیٹلا کیا ہے اور جو تمہاری تکلیف
دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

پیدا ہے! میری ایک آنکھ چالیس سال سے ناکارہ ہے مجھے اس سے
کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن میں نے اس کے متعلق آج تک کسی کو خبر نہیں دی
 حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔“ (۱)

۱۔ الکنی والا لقب ج ۲ ص ۱۳۔

خدو احذرہم و اسلحہم،" (سورہ نساء آیت ۱۰۲)

(وہ اپنے ہتھیار اور جاؤ کا سامان لے کر نماز پڑھیں۔)"

علاوه ازیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے "و اعدوا للہ ما استطعتم...."

(دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت آمادہ کرو اور گھوڑے تیار رکھو۔)"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا "فاسر بعادی

لیلا" (سورہ دخان آیت ۲۳)

(میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت سفر کرو تاکہ دشمن تمیں

دیکھنے نہ پائے۔)"

اگر توکل کا مفہوم ترک اسباب ہوتا تو حالت نماز میں اسلام ہتھیار

پکڑنے کا حکم کیوں دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت بھرت کا حکم

کیوں ملتا؟

ہاں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لئے قوت آمادہ

رکھو لیکن نتیجہ خدا کے پرورد کر دیا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسر اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

"أوجب اللہ لعبادہ ان يطلبوا منه مقاصد هم بالأسباب التي سببها لذلك و

امرهم بذلك.

(اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو ان

اسباب کے ذریعے سے حاصل کریں جو اللہ نے مقرر کئے ہیں اور حکم دیا ہے کہ

وہ ان وسائل سے استفادہ کریں۔)"

اور جب اس کا مقابلہ اپنے سے کئی گناہ زیادہ طاقتور حریف سے ہو تو وہ فوراً

ٹکست کھا جائے گا لیکن اس کے بر عکس وہ سپاہی جو خدا پر توکل رکھتا ہو اور اس

کی عنایات پر اس کی نظر ہو تو وہ اپنے سے کئی گناہ زیادہ طاقتور دشمن سے ہرگز

مغلوب نہیں ہو گا کیونکہ اسے یقین حاصل ہو گا کہ بذات خود وہ کمزور ہے لیکن

ایک عظیم قوت اس کی مدد کے لئے موجود ہے اور اس کا مددگار وہ ہے جو علیٰ

کل شیء قدیر ہے۔ تو ایسا شخص کبھی خوف زدہ نہیں ہو گا اور اسی جذبہ توکل

کی بدولت تین سو تیرہ افراد اپنے سے تین گناہی قوت سے ٹکرا گئے تھے اور

مئھی بھر مجاهدین نے ایران و روم کی حکومتوں کو تباہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔

ان مجاهدین کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ دل کی گمراہیوں سے یقین

رکھتے تھے کہ ان کی پشت پر تھی و قوم خدا کی قدرت موجود ہے۔

اسلام نے ترک اسباب کی تعلیم نہیں دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے ہمیشہ فوج کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور انہیں فوجی تربیت دلائی۔

ایک دفعہ جب ایک عرب آپؐ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے فرمایا:

"تم نے اونٹ کو کہاں چھوڑا؟"

عرب نے جواب دیا: "میں نے مسجد کے باہر اسے اللہ پر توکل کرتے

ہوئے چھوڑ دیا۔"

آپؐ نے فرمایا: "نہیں یہ طریقہ غلط ہے "اعقلہما و توکل" (جاوے اس

کا زانو باندھو اور توکل کرو۔)"

قرآن مجید نے ہمیشہ اسباب میا کرنے پر زور دیا ہے، مثلاً قرآن مجید

نے مجاهدین کو یہ درس دیا کہ جب عین بیگ میں وقت نماز آجائے تو "فلیا

چند روایات

قال رسول اللہ قال اللہ عزوجل ان من عبادی المؤمنین عبادا لا يصلح لهم امر دینهم الا بالغنى والسعه والصحة في البدن فابلوهم بالغنى والسعه وصحة البدن فيصلح لهم امر دینهم وان من عبادی المؤمنین لعبادا لا يصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه والمسكناة والسمق في ابدانهم فابلوهم بالفاقه والمسكناة والسمق ليصلح عليهم امر دینهم وانا اعلم بما يصلح عليه امر دین عبادی المؤمنین.

”اصول کافی ج ۲ ص ۶۰“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے مؤمن بندوں میں ایسے بندے ہیں جن کا دین ثروت اور وسعت رزق اور جسمانی صحت سے قائم رہتا ہے تو میں انہیں ثروت و وسعت رزق اور فقر و فاقہ اور جسمانی ہماری سے قائم رہ سکتا ہے تو میں انہیں غربت و افلاس اور ہماری سے آزماتا ہوں تاکہ ان کا دین قائم رہے اور میں خوبی جانتا ہوں کہ مؤمن بندوں کا دین کس چیز سے قائم رہ سکتا ہے۔“

عن ابی عبداللہ قال اوحی اللہ عزوجل الى داؤد ما اعتصم بي عبد من عبادی دون احد من خلقى عرفت ذلك من نيته ثم تکیده السماوات والارض ومن فيهن الاجعلت له المخرج من بينهن وما اعتصم عبد من عبادی باحد من خلقى عرفت ذلك من نيته الاقطعه اسباب السماوات

والارض من يديه واسخت الارض من تحته ولم ابال باى واد هلك.

”اصول کافی ج ۲ ص ۶۳“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے تمک کرتا ہے اور میرے علاوہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے اور میں جب اس کی نیت کے اخلاص کا مشاہدہ کر لیتا ہوں تو پھر چاہے ساتوں آسمان اور زمینیں اس کو جال میں پھنسانا چاہیں تو بھی میں اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے چھوڑ کر مخلوق سے اپنی امیدیں والستہ کرتا ہے اور میں اس کی نیت کا مشاہدہ کر لیتا ہوں تو میں اس کے سامنے سے زمین و آسمان کے تمام اسباب قطع کر دیتا ہوں اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہوں اور اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔“

عن ابی عبداللہ قال ایما عبدا قبل قبل ما يحب الله عزوجل اقبل الله قبل ما ما يحب ومن اعتصم بالله عصمه الله ومن اقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الارض او كانت نازلة نزلت على اهل الارض فتمثلهم بلية كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية اليه الله يقول ان المتقيين في مقام امين.

”اصول کافی ج ۲ ص ۶۵“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جو بندہ اس امر کی طرف توجہ کرے جسے خدا پسند کرتا ہے تو خدا بھی اس کے لئے اس امر کی طرف متوجہ ہو گا جسے وہ پسند کرتا ہو گا۔ جس نے خدا سے تمک کیا اور توکل سے کام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تہمتی کرے گا اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو گی چاہے آسمان زمین پر گرے یا

عزو جل له فيما احب او كره الا ما هو خير له.

عن ابی عبد اللہ ان فيما اوحى الله تعالى الى موسی بن عمران يا موسی بن عمران ما خلقت خلقا احب الى من عبدي المؤمن فاني انما ابتليه لما هو خير له واعافيه لم هو خير له وازدى عنه لما هو خير له انا اعلم بما يصلح عليه عبدي فليصبر على يلاتي ويشكر نعمانی ويرض بقضائی اکتبه فی الصدیقین عندي اذا عمل برضائی واطاع امری.

"اصول کافی ج ۲ ص ۲۱، ۲۲"

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: "الله کی تقدیر پر صبر و رضا اللہ کی بہت بڑی اطاعت ہے۔ جو اللہ کی قضا پر خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند صابر و راضی رہا تو اللہ بھی اس کے پسند و ناپسند کے لئے وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے لئے بہتر ہو گا۔"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسی علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی اس میں یہ وہی بھی شامل تھی: "اے موسی اعن عمران! مجھے اپنی مخلوق میں سے مؤمن بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اگر اس کی آنائش کرتا ہوں تو اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے اور اگر اسے سلامتی دیتا ہوں تو بھی اس کی اس میں بھلائی ہتی ہوتی ہے، اگر میں اس سے کسی چیز کو دور رکھتا ہوں تو بھی اس کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے، میں خود بہتر جانتا ہوں کہ میرے بندے کی بھلائی کس چیز میں ہے، مؤمن کو چاہئے کہ وہ میری آنائش پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرے اور میری قضا پر راضی رہے، میں اس کا نام اپنے پاس صدیقین میں لکھوں گا جب وہ میری رضا پر عمل کرے گا

اہل زمین پر مصیبت نازل ہو جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو اس عالم میں بھی وہ خدا کے گروہ میں ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ پرہیز گارا من کے مقام میں ہوں گے۔"

عن ابی عبد اللہ قال من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا. من اعطی الدعا اعطی الاجابة ومن اعطی الشکر اعطی الزیادة ومن اعطی التوکل اعطی الکفایة ثم قال اقلوت کتاب اللہ عزو جل ادعونی استجب لكم وقال لئن شکرتم لا زیدنکم وقال من یتوکل علی اللہ فھو حسنه.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "جسے تین چیزیں نصیب ہوئیں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں رہے گا:

- ۱۔ جسے دعا نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہے گا۔
- ۲۔ جسے شکر ملا وہ اضافہ سے محروم نہ رہے گا۔
- ۳۔ جسے توکل ملا وہ کفایت سے محروم نہ رہے گا۔

کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے: "تم مجھ سے دعائیں گوئیں قبول کروں گا۔"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔"

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: "جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہے۔"

عن علی ابن الحسین قال الصبر والرضا عن الله راس طاعة الله ومن صبر و رضى عن الله فيما قضى عليه فيما احب او كره لم يقض الله

اور میرے امر کی اطاعت کرے گا۔“

عن ابی جعفرؑ قال: احق خلق الله ان يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله عزوجل ومن رضى بالقضاء اتى عليه القضاء وعظم الله اجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء واحبط الله اجره.

قال علی بن الحسینؑ الزہد عشرۃ اجزاء اعلى درجة الزہد ادنی درجة الورع و اعلى درجة الورع ادنی درجة اليقین و اعلى درجة اليقین ادنی درجة الرضا.

”اصول کافی ج ۱ ص ۲۲“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ کی قضا کو تسلیم کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور جو قضاۓ خداوندی پر راضی رہے گا تو قضاۓ اس پر وارد ہو گی اور رضا کی وجہ سے اللہ اس کے اجر میں اضافہ کر دے گا اور جو قضاۓ الہی پر ناراض ہو گا تو قضاۓ تو جاری ہو کر رہے گی مگر اللہ اس کا اجر ضائع کر دے گا۔

امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ”زہد کے دس اجزاء ہیں: زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ”ورع“ کا پست ترین درجہ ہے اور ”ورع“ کا اعلیٰ ترین درجہ یقین کا پست ترین درجہ ہے اور یقین کا اعلیٰ ترین درجہ رضا کا پست ترین درجہ ہے۔“

باب ہفتم

اخلاص عمل

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

الا لله الدين الخالص. (سورة زمر آیت ۲)

”اے رسول! بے شک ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، تم عبادت کو اس کے لئے کھرا کر کے خدا کی بندگی کیا کرو، آگاہ رہو کہ عبادت تو خالص اللہ کے لئے ہے۔“

اخلاصِ تالیف کی قدر و قیمت

محقق خاتون آبادی اپنی کتاب ”حدائق المقویین“ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند بورگ علمائے شیعہ جن میں محمد ای قزوینی، عبدالجبار بن عبدالله مقرری اور حسن بن بابویہ مشهور ہے حکایت گدا میں جمع ہوئے اور شیخ طوسی کی کتاب نہایہ کی ترتیب ابواب و فصول کے متعلق حث کی اور سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ اس کتاب کی ترتیب غلط ہے۔

پھر تمام بورگ علماء امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف

اختلاف نہیں تھا۔

اس کے بعد تینوں مذکورہ علماء شیخ طوسی کو مبارک باد دینے کے لئے
گئے تو جیسے ہی شیخ کی نظر ان پر پڑی تو ان کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا:
”میں نے جو کچھ نہایہ کے متعلق کہا تھا تم نے اس پر اعتماد نہیں کیا یہاں تک
کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تمہیں اس کے متعلق بتایا۔“

یہی وجہ ہے کہ شیخ طوسی کی وفات کے بعد علمائے شیعہ مدحیہ تک
نمایہ کے مطابق فتویٰ دیتے رہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ شیخ طوسی کے بعد اتنی سال تک ملت شیعہ
میں کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ اس عرصے میں علمائے شیعہ نہایہ پر ہی عمل
کرتے رہے۔ (۱)

علیؑ سے اخلاصِ عمل سیکھو

عرو عن عبدود عرب کا جری اور مشہور پہلوان تھا۔ وہ اکیلا ایک ہزار
افراد سے جگ کرتا تھا۔ جگ خندق میں یہ پہلوان بھی مشرکین کے لشکر میں
 شامل تھا۔ جب ابوسفیان ہزاروں کا لشکر لے کر مدینہ کو تاراج کرنے آیا تو یہ
دیکھ کر متغیر ہو گیا کہ پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھدی ہوئی تھی۔ اس نے
کہا: ”عرب اس طرح کی لڑائی کبھی نہیں لڑتے تھے، یہ انداز ایران کا ہے
معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایرانی نے محمدؐ کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔“

لشکر کفار نے خندق کے گرد خیجے نصب کر دیئے، عرو عن عبدود

۱۔ روضات الجات ص ۶۰۹۔

ہونے کے لئے نجف اشرف روانہ ہوئے، یہ اس دور کی بات ہے جب شیخ طوسی
زندہ تھے۔

ان تمام بزرگوں نے تین دن روزے رکھے اور تیسرا رات غسل کر
کے حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں داخل ہوئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام
سے درخواست کی کہ وہ کتاب نہایہ کے متعلق ان کی راہ نمائی فرمائیں۔

اس رات تینوں بزرگوں کو علیحدہ علیحدہ خواب میں امیر المؤمنین علیہ
السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آپؐ نے فرمایا: ”فَقَدْ أَبْلَغَتْ عَلِيِّمُ السَّلَامِ كِيْ أَيْسِيْ
كَتَابَ جُو بَا اعْتَادَ ہو اور جو رجوع کے لائق ہو، وہ وہی کتاب نہایہ ہے جس سے
تمہیں اختلاف ہے اور اس سے بہتر کتاب ابھی تک تایف نہیں ہوئی اور اس
کتاب کی تدریجی قیمت کی بیانی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے مصنفوں نے رضاۓ اللہ
کے جنبے سے اسے اخلاقی کے ساتھ تصنیف کیا ہے، کتاب کے موضوعات
کے متعلق کسی قسم کا شک نہ کرو اور اس کے مطابق فتویٰ دو، یہ کتاب جس
ترتیب و تفصیل سے لکھی گئی ہے وہ تمہیں دوسری کتابوں سے بے نیاز کرنے
والی ہے۔“

جیسے ہی علماء نے یہ خواب دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے
شیخ کی کتاب نہایہ کے متعلق خواب دیکھا ہے، پھر علماء نے کہا کہ ہمیں علیحدہ
بیٹھ کر اپنا خواب لکھنا چاہئے، پھر ہم تینوں تحریریں دیکھ کر کوئی فیصلہ
کر سکیں گے۔

تینوں بزرگوں نے علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر اپنا خواب تحریر کیا، جب تینوں
تحریروں کو جمع کیا گیا تو سب تحریریں ایک جیسی تھیں، ان میں رائی برادر

خندق کا جائزہ لینے لگا۔

ایک مقام سے اسے خندق کچھ تجھ نظر آئی تو اس نے گھوڑے کو جولان دی اور خندق کے پار آگیا اور اس خیبے کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتھ۔

اس نے آتے ہی مبارز طلبی کی لیکن اس کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے جانے کے لئے آمادہ نہ ہوا۔

آخر کار حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر کہا: "یا رسول اللہ! اس کے مقابلے میں میں جاؤں گا۔"

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "یہ عمرو بن عبدود ہے۔"

حضرت علیؓ نے کہا: "مولا! یہ عمر بن عبدود ہے تو میں بھی علیؓ بن ابی طالب ہوں۔"

بہر نوں حضرت علیؓ رسول خدا کی دعائیں لے کر عمر بن عبدود کے مقابلے میں چلے تو رسول خدا نے فرمایا: "بوز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ (سارے کاسار اسلام سارے کے سارے کفر کی طرف جا رہا ہے)۔"

حضرت علیؓ نے جاتے ہی اس سے کہا: "میں نے شاہے کہ تو کھتا ہے کہ جو شخص میرے سامنے تین چیزیں رکھے گا تو میں ایک بات ضرور قبول کروں گا۔"

عمرو بن عبدود نے کہا: "ہاں! یہ درست ہے۔"

حضرت علیؓ نے فرمایا: "میری پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرے

اور بدی نجات حاصل کر لے۔"

عمرو نے کہا: "یہ ناممکن ہے۔"

تو حضرت علیؓ نے فرمایا: "پھر میدان چھوڑ کر واپس چلا جا۔"

عمرو نے کہا: "یہ بھی ناممکن ہے اگر آج میں میدان چھوڑ کر واپس چلا گیا تو عرب کی عورت تیس مجھے طخنے دیں گی۔"

حضرت علیؓ نے فرمایا: "تو سوار ہے اور میں پیادہ ہوں، گھوڑے سے اتر آؤں اور مجھ سے جنگ کر۔"

عمرو نے کہا: "یہ بات مبنی بر انصاف ہے" گھوڑے سے اتر اور حضرت علیؓ علیہ السلام پر وار کیا، حضرت علیؓ نے اس کے تمام وارد کئے۔

پھر حضرت علیؓ نے اس پر حملہ کیا، عمرو بن عبدود پشت کے بل گرا۔

حضرت علیؓ اس کے سینے پر سوار ہوئے، تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر اچانک لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علیؓ اس کے سینے سے اتر گئے اور شلنے لگے۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کی: "یا رسول اللہ! علیؓ سے کیسی اسے جلدی قتل کرے۔"

حضور اکرمؐ نے فرمایا: "اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علیؓ اپنے کام کو خوبی جانتا ہے۔" کچھ دیر بعد حضرت علیؓ نے اسے دوبارہ پچھاڑا اور قتل کر دیا۔

رسول خدا نے ارشاد فرمایا: "ضریبة علیؓ یوم الخندق افضل من عبادة الشقلین (خندق کے روز علیؓ کا وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے)۔"

گفت امیر المؤمنین با آن جوان
که بہنگام نبرد ای پہلوان
چون خیو انداختی بر روی من
نفس جنید و تبه شد خوی من
نیم بہر حق شد و نیمی هوا
شرك اندر کار حق نبود روا

(۱)

عمل خالص کی تاثیر

ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے چند افراد ایک درخت کی پوچھتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا۔ اس نے گھر سے کھاڑا اخہلیا اور درخت کاٹنے کے لئے چل پڑا۔

ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس سے کہا: ”بدهہ خدا تو یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتا ہے اس کام سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہو گا؟ خواہ مخواہ تو نے اپنی عبادت کو چھوڑا اور بے فائدہ کام کے لئے چل پڑا، تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اس وقت میں تو اچھا خاصاً ذکر الٰہی کر سکتا تھا۔“

عبد کو اس کی باتوں پر غصہ آیا آخر کار دونوں گھنتم گھنا ہو گئے۔ چند ثانیوں میں شیطان مغلوب ہو گیا اور عابد اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔

— انوار نعمانیہ، عین الحیۃ، مثنوی مولوی۔

جب حضرت علیؑ عمر و بن عبدود کا سر لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپؑ نے علیؑ سے پوچھا: ”یا علیؑ! تم نے دشمن کو زیر کر کے کیوں چھوڑ دیا تھا؟“

حضرت علیؑ نے عرض کی: ”مولا! جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میرے ساتھ بے ادنی کی، اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آگیا میں نے دل میں سوچا اگر اس حالت میں اسے میں نے قتل کیا تو رضاۓ الٰہی میں میرا غصہ بھی شامل ہو گا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو نے فلاں کافر کو جب قتل کیا تھا تو اس میں تمہارا اپنا غصہ بھی شامل تھا۔ اسی لئے میں نے اسے چھوڑ دیا، جب میرا غصہ مٹھندا ہو گیا تو میں نے اسے پھر زیر کیا اور قتل کیا۔“

عارف رویؓ نے اس ولقے کو یوں قلم بند کیا ہے:

از علیؑ آموز اخلاص عمل
شیر حق را دان منزه از دغل
در غزایر پہلوانی دست یافت
زود شمشیری برآورد و شافت
او خیو انداخت برروی علیؑ
افتخار هر نبی و هر ولی
در زمان انداخت شمشیر آن علیؑ
کرد او اندر غزایش کاہلی
گفت برمن تیغ تیز افراشتی
از چہ افکنڈی مرا بگراشتی

کے لئے خالص عمل کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ تمجیتِ توحید کے جذبے سے نہیں آیا تھا، تجھے رقم کے نہ ملنے کا افسوس تھا، اسی وجہ سے تو نے کلماً اٹھایا تھا اسی لئے اس مرتبہ تو مغلوب ہو گیا اور میں غالب ہو گیا۔^(۱)

عمل خالص کا نتیجہ

جلدِ بعثتی نے یہ داستان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عرصہ قبل تین دوستوں نے ایک ساتھ سفر کیا اور راستہ چلتے ہوئے بارش آگئی، بارش سے پختے کے لئے وہ ایک غار میں جا گئے۔

آندھی چلتی رہی، بارش اور اولے برستے رہے اور تینوں سے ہوئے اس منظر کو دیکھتے رہے وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ الٰہ! اس طوفان سے نجات دلا۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اب تو وہ سخت گھبرائے، پتھر ہٹانے کے لئے تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا نہ سر کا۔

غار سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا، تینوں مسافر مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔

ان میں سے ایک نے کہا: ”دوستو! آؤ اپنے اپنے ابھی کاموں کو یاد کر کے خدا سے دعا مانگیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چالے۔“

ایک مسافر نے کہا: ”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں اپنے چوں کو حلال

شیطان نے جب اپنے آپ کو مغلوب پایا تو اس نے عابد سے کہا: ”هم تم آپس میں مصالحت کر سکتے ہیں، تم اس درخت کو ہاتھ مند لگاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ دو دینار تمہیں دوں گا اور وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے موجود ہوں گے، ان دیناروں سے تم اپنی حاجات پوری کرنا اور غریب لوگوں کی مدد بھی کرنا۔“

عبد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس آیا۔ دو دن تک عابد کے سرہانے تلے دینار پائے گئے لیکن تیرے دن اسے سرہانے کی نیچے کچھ بھی نظر نہ آیا، اب کی بار عابد کو پھر غصہ آیا اور کلماً اٹھا کر درخت کاٹنے کے لئے پل پل راستے میں پھر شیطان انسانی صورت میں اسے کھڑا نظر آیا۔

شیطان نے ڈاٹ کر کہا: ”کہاں جا رہا ہے؟“

عبد نے کہا: ”درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔“

شیطان نے کہا: ”میں تجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔“

بالآخر وہ دونوں ایک بار پھر گھنائم گھٹھا ہو گئے اور دونوں میں لپاڑی ہونے لگی۔ چند ثانیوں میں شیطان نے عابد کو مغلوب کر لیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا: ”اگر تو نے درخت کاٹنے کا دوبارہ نام لیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔“

عبد نے کہا: ”میں وعدہ کرتا ہوں کہ درخت کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، میں تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی مرتبہ تو مغلوب ہو گیا تھا اور اس مرتبہ تو مجھ پر کیے غالب آیا؟“

شیطان نے کہا: ”چھپلی مرتبہ تو رضاۓ الٰہ کی غرض سے درخت کاٹنے جا رہا تھا، اسی لئے میں ہار گیا کیونکہ ہم ان پر کبھی غالب نہیں پاسکتے جو اللہ

اجر بقدر خلوص

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں جہاد کی غرض سے گھر سے روانہ ہوا اور راستے میں ایک شخص کو میں نے توبہ فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ دل میں سوچا کہ ایک توبہ خرید کر لینا چاہئے، اس سے چند دن استفادہ بھی کروں گا اور جب فلاں مقام پر پہنچوں گا تو یہ توبہ فروخت کروں گا جس سے مجھے کچھ منافع بھی حاصل ہو گا۔

یہ سوچ کر میں نے توبہ خرید لیا۔ رات ہوئی، میں سو گیا تو خواب میں دو فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: ”مجاہدین کے نام لکھو۔“

اس نے نام لکھنے شروع کئے، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا: ”اس کے متعلق لکھو کہ یہ تجارت کے لئے آیا تھا اور میرے علاوہ ایک اور شخص کے لئے کہا کہ اس کے متعلق لکھو کہ وہ خود نمائی اور ریا کے تحت شریک ہوا تھا۔“

میں نے رو رو کر فرشتوں سے کہا: ”میرے پاس سرمایہ نہیں ہے میں تجارت کے لئے نہیں خالص جہاد کے لئے گھر سے نکلا ہوں۔“
فرشتے نے کہا: ”تو کیا تو نے حصول منفعت کی غرض سے توبہ نہیں خریدا؟“

میں نے کہا: ”خدا گواہ ہے میں تاجر نہیں ہوں میں جہاد کے لئے گھر سے چلا تھا، تجارت کے لئے نہیں چلا تھا۔“ اور اس کے ساتھ میں نے زارو قطار رونا شروع کیا۔

روزی کھلانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہوں، میں نے حرام کا لقہ نہ کبھی خود کھلایا اور نہ کبھی پھوں کو کھلایا ہے۔ خدیا! اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اس پھر کو ہٹا کر ہمیں موت کے منہ سے نکال۔“

پھر ذرا سر کا اور باہر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر آئے گی۔ دوسرا مسافر بولا: ”اے خدا! تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غریبوں اور محابیوں کی مدد کی ہے اور کسی سائل کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں پھیرا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں ہلاکت سے نجات دخشد۔“
پھر اور ذرا سر ک گیا مگر ابھی اتنی جگہ خالی نہ ہوئی تھی کہ اس میں سے آدمی باہر نکل سکے۔

تیسرا مسافر نے کہا: ”اللہ! تو جانتا ہے کہ میں سارا دن اپنی بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں اور بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور وہ دودھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بیوی بھیوں کو دیتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چالے۔“

جوں ہی دعا ختم ہوئی پھر لڑکا اور نیچے جاگر اور غار کا منہ کھل گیا، اس وقت تک آندھی اور بارش کا طوفان ختم ہو چکا تھا۔ تینوں مسافروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل کر اپنے راستے پر چل دیئے۔

پھر رسول خدا نے فرمایا: ”من صدق اللہ نجی۔ جو صدق و راستی کے در سے خدا کے پاس آیا اس نے نجات پائی۔ (۱)

۱۔ معاشر بر قی حصہ ۲۵۳۔

جب دوسرے ہرنوں نے ساتھ انہوں نے کہا: ”تو ہم بھی آدم کے پاس نافہ مشک حاصل کرنے جاتے ہیں۔“

یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔ مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔

انہوں نے واپس آگر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا: ”ہم نے بھی آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی فرمائی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے۔“

تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا: ”ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا، ہماری نیت سلام کی تھی لہذا اللہ نے ہمیں خوشبو سے نواز اور تمہاری نیت خوشبو کی تھی اسی لئے تم محروم رہے۔“

حضرت بہلولؑ اور زبیدہ خاتونؓ

ایک دن حضرت بہلول پھوں کی طرح تنکوں کے مکان بنادیے تھے کہ ہارون الرشید کی بھی زبیدہ کا دہاں سے گزر ہوا تو پوچھا: ”بھائی! آپ کیا کر رہے ہیں؟“

بہلول نے کہا: ”بخت کے مکان بناؤ کر فروخت کر رہا ہوں۔“ زبیدہ نے کہا: ”پھر ایک مکان مجھے بھی عنایت کریں۔“

بہلول نے تنکوں کا بنا ہوا ایک مکان زبیدہ کو دے دیا۔

یہ سن کر اس فرشتے نے دوسرے سے کہا: ”اچھا تم یہ لکھوکہ یہ مگر سے جماں کی نیت سے نکلا تھا، البتہ راستے میں اس نے تو بدہ کو تجارت کی غرض سے خریدا اس کے متعلق جو اللہ مناسب سمجھے خود ہی فیصلہ کرے گا۔“ (۱)

اخلاص کی تاثیر ہمیشہ قائم رہتی ہے

محمد ثقیٰ نے سفینہ کی جلد اول میں شیخ شرف الدین بن موسیٰ کی کتاب مختصر الاحیاء سے نقل کیا ہے کہ:

جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت کے مطابق دعا فرمائی۔

ہرنوں کا ایک دست آدم علیہ السلام کے سلام کے لئے ان کے پاس آیا، حضرت آدم نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جن کے نتیجے میں اللہ نے انہیں نافہ مشک عطا فرمایا۔

جب یہ ہرن مشک کے امین بن کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا: ”آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور آج سے قبل یہ خوشبو تم میں نہیں ہوتی تھی، یہ خوشبو کمال سے لائے ہو؟“

ہرنوں نے کہا: ”ہم صلی اللہ کی زیارت اور سلام کے لئے گئے تھے انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافہ مشک کا حامل بنادیا۔“

۱۔ نہجۃ الحاجیں ج ۱ ص ۳۔

ہارون نے کہا: "تم نے میری بھوئی کو ایک ہار کے بدالے میں جنت کا محل دیا تھا اور مجھ سے اتنی بڑی قیمت مانگ رہے ہو؟"
بھملوں نے کہا: "اس نے مجھ سے ان دیکھا سودا کیا تھا اور تم دیکھنے کے بعد سودا کر رہے ہو۔" (۱)

بھملوں اور ہارون الرشید

ہارون الرشید نے بغداد میں ایک نمایت ہی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی، کئی سال تک مسجد تعمیر ہوتی رہے، بر سا برس کی محنت کے بعد مسجد پاپیہ بھیل کو پہنچی۔

ایک دن ہارون اس مسجد میں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ دروازے پر بھملوں نظر آئے۔

ہارون نے بھملوں سے کہا: "بھملوں! تم نے مسجد دیکھی، کیسی خوبصورت اور لا جواب مسجد ہے۔"

بھملوں نے کہا: "مسجد بہت خوبصورت ہے، آپ مریبانی کر کے اس کے صدر دروازے پر میراثاں کنڈہ کروائیں۔"

ہارون نے ناراض ہو کر کہا: "بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ کروڑوں دینار میں خرچ کروں اور دروازے پر تیراثاں لکھا ہوا ہو؟"

بھملوں نے ہنس کر کہا: "اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یہ مسجد خدا کے لئے نہیں بلکہ نمود و نمائش کے لئے تعمیر کرائی ہے، اگر تو نے یہ مسجد

۱۔ آل محمد کا دیوان بھملوں داتا۔

زیدہ نے اس کے بدالے میں اپنے گلے کا ہار اتار کر بھملوں کے حوالے کیا اور تنکوں کا نخساں گھروندہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی۔
ہارون الرشید گھر میں آیا تو تنکوں کا گھروندہ دیکھ کر بھوئی سے کہا: "یہ کیا ہے؟"

زیدہ نے کہا: "یہ جنت کا گھر ہے جسے میں نے ہار کے بدالے میں بھملوں سے خریدا ہے۔"

ہارون ہنسنے لگا اور کہا: "آج دیوانے نے تجھے بے وقوف بنایا ہے۔"
رات ہوئی، ہارون سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی تلاش میں وہ اوہر ادھر مارا مارا پھرنا لگا۔

اسی اثناء میں اسے ایک عظیم الشان محل نظر آیا وہ اس محل کی طرف چل پڑا، جب وہ محل کے قریب آیا تو اس پر "قصر زیدہ" کے الفاظ تحریر تھے۔ خوش ہو کر اندر جانے لگا تو دربانوں نے اسے روک لیا، اسی اثناء میں اس کی آنکھ کھل گئی۔

دوسرے دن ہارون بھملوں کے پاس گیا وہ تنکوں کے گھروندے ہنا کر کھیل رہے تھے۔

ہارون نے کہا: "بھملوں یہ کیا ہے؟"
بھملوں نے کہا: "یہ جنت کے گھر بنا کر پیچ رہا ہوں۔"
ہارون نے کہا: "پھر ایک گھر مجھے بھی عطا کرو۔"
بھملوں نے کہا: "اس کی قیمت پوری حکومت ہے۔"

کتابوں کی تعریف کرتے تو تم خوش ہوتے تھے، تمہاری کتابوں کی اجرت تمہیں زندگی میں ہی مل گئی تھی۔

میں نے پھر عرض کی: ”پروردگار! میں نے زندگی کا طویل حصہ امامت جمعہ میں صرف کیا ہے۔“

خداؤن د عالم نے فرمایا: ”جس ہے تو جمعہ کی امامت کیا کرتا تھا لیکن جب مقتدی زیادہ ہوتے تو تو خوش ہوتا تھا اور جب مقتدی کم ہوتے تھے تو تو اس ہوتا تھا، ایسے عمل ہماری بارگاہ کے شایان شان نہیں ہیں۔“

پھر میں نے ایک ایک کر کے اپنی نیکیاں گنوائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری کسی نیکی کو بھی قبول نہ کیا۔

آخر کار میں مایوس ہو گیا تو اس اثناء میں یہ آواز مجھے سنائی دی: ”مجلسی! ہماری بارگاہ میں تمہارا ایک عمل اخلاص پر منی ہے اور تمہارا وہ عمل ہماری بارگاہ میں مقبول ہے اور تمہارا وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تم بازار سے گزر رہے تھے اور تمہارے ہاتھ میں ناشپاٹی تھی، ایک چھوٹا چھر اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، اس نے تمہارے ہاتھ میں ناشپاٹی دیکھ کر ماں سے ناشپاٹی کی ضد کی۔

چھر کی ماں نے کہا کہ پیٹا صبر کرو میرے پاس رقم نہیں ہے۔
یہ سن کر تمہارا اول پیشجا تھا اور تم نے چھر کو ناشپاٹی دے دی تھی۔
ہم نے تمہارا وہ عمل قبول کیا اور اسی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی ہے۔“ (۱)

۱۔ منتخب الوارث خص ۷۷۔

الله کے لئے بنائی ہوتی تو تمیرے ذہن میں یہ بات بھی نہ آتی۔“
بیکلول کی یہ بات سن کر ہارون سخت شرمندہ ہوا۔ (۱)

علامہ مجلسیؒ کو نجات کیسے ملی؟

کتاب دارالسلام میں خواصِ راقت سے یہ روایت نقل کی گئی کہ ایک عالم غالباً امیر محمد صالح خاتون آبادی علامہ مجلسیؒ کے والماں بیان کرتے ہیں کہ علامہ مجلسیؒ کی وفات کو ایک سال گزر ا تو ایک رات عالم خواب میں علامہ مرحوم کی زیارت نصیب ہوئی۔

میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ کو جلد زیارت کرانی چاہئے تھی آپ نے اس قدر دیر کیوں کر دی؟

انہوں نے فرمایا: ”اب تک حساب میں مصروف تھا۔ اب حساب سے نجات ملی تو میں تمہارے پاس آگیا۔“

میں نے پوچھا: ”اللہ نے آپ کا حساب کس طرح سے کیا؟“
علامہ مرحوم نے فرمایا: ”جب میری روح وہاں پہنچی تو ندانے قدرت آئی کہ مجلسیؒ! ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟“

میں نے عرض کی: ”پروردگار! میں نے پوری زندگی تالیف و تصنیف قرآن و حدیث کی شرح لکھتے گزاری ہے۔“

خداؤن د عالم نے فرمایا: ”جس ہے تو نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں لیکن تم کتابوں کا انتساب سلطین کے نام سے کرتے تھے اور جب لوگ تمہاری

۱۔ آل محمد کا دیوان بیکلول دانا۔

چند روایات

عن ابی الحسن الرضاً ان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کان یقول طویل
لمن اخلص لله العبادة و الدعاء ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه ولم ینس
ذکر اللہ بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اعطيٰ غيره.

”اصول کافی ج ۱ ص ۱۵“

امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباءٰ طاہرین کی سند سے روایت کی ہے کہ
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: ”خوشا حال اس کا جو اللہ کے
لئے عبادت اور دعا اخلاص کے ساتھ جالائے اور جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھیں
اس کی وجہ سے اس کا دل حق سے مخرف نہ ہو اور جو کچھ اس کے کان سنیں
اس کی وجہ سے اللہ کی یاد کونہ بھلائے اور اپنے غیر کو ملنے والی نعمات دیکھ کر
اس کے سینے میں کسی قسم کا دکھ پیدا نہ ہو۔“

عن ابی عبداللہؑ فی قول اللہ عزوجل: ”لیبلوکم ایکم احسن عملًا۔“ قال
لیس یعنی اکثر عملًا ولكن اصوبکم عملًا و انما الاصابة خشیة اللہ
والنية الصادقة والحسنة ثم قال الا بقاء على العمل حتى یخلص اشد من
العمل والعمل الخالص: الذى لا ترید ان یحمدك عليه احد الا اللہ
عزوجل والنية افضل من العمل والا وان النية هي العمل ثم تلا قوله
عزوجل: ”قل کل یعمل على شاکلته.“ یعنی على نیتہ.

”اصول کافی ج ۲ ص ۱۶“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآنی آیت ”هوالذى خلق الموت والحياة
لیبلوکم ایکم احسن عملًا“ (سورۃ ملک آیت ۲) (وہی خدا تو ہے جس نے

موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کا
ہے۔) کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا اس کی
جائے حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے اور حسن عمل خوف خدا اور کچھ نیت اور نیکی
سے عبارت ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”کسی عمل پر مداومت کرنا یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے،
عمل سے زیادہ مشکل ہے اور عمل خالص کی تعریف یہ ہے کہ جس پر اللہ کے
علاوہ کسی کے تعریف و ثناء کی امید نہ رکھی جائے اور نیت، عمل سے افضل ہے
بلکہ نیت ہی عین عمل ہے۔“

پھر آپ نے بطور استشهادیہ آیت پڑھی ”قل کل یعمل على شاکلته“ (سورۃ
بنی اسرائیل آیت ۸۳) (کہہ دو کہ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا
ہے۔) اس آیت میں لفظ ”شاکلته“ سے مراد نیت ہے۔

عن ابی جعفرؑ قال ما اخلص العبد الایمان بالله عزوجل اربعین يوما او قال
ما اجمل عبد ذکر الله اربعین يوما الا زهده الله عزوجل فی الدنيا وبصره
دانها و دوانها فثبتت الحکمة فی قلبه و انطق بها لسانه ثم قال ان الذين
اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم و ذلة فی الحياة الدنيا وكذلك
نجزى المفترين فلا ترى صاحب بدعة الاذليل و مفتريا على الله وعلى
رسوله وعلى اهل بيته صلوات الله علیهم الاذليل.

”اصول کافی ج ۲ ص ۱۶“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص پورے چالیس روز اللہ پر ایمان
خالص رکھے، یا آپ کے الفاظ یہ تھے: جو شخص چالیس روز تک اچھے طریقے

دل دنیوی آلاتوں سے پاک صاف ہو اور آخرت کے لائق ہو جائے۔“

عن اسماعیل بن یسار قال سمعت ابا عبد اللہ يقول ان ربکم لرحیم یشکر القليل، ان العبد لیصلی رکعتین یرید بهما وجه اللہ فیدخله اللہ بهما الجنة وانه لیتصدق بالدرهم یرید به وجه اللہ فیدخله اللہ به الجنة. عن ابی عبد اللہ قال من اراد اللہ بالقليل من عمله اظهر اللہ له اکثر مما اراده به ومن اراد الناس بالکثير من عمله فی تعب من بدنہ وسهر من لیله ابی اللہ الا ان یقللہ فی عین من سمعه.

”مسان بر قی ج اص ۲۵۳، ۲۵۵“

اسماعیل عن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناہی کہ وہ فرمایا کرتے تھے: ”تمہارا رب براہی قدر داں ہے۔ ایک شخص دو رکعت نما خالص خدا کی رضا کے لئے پڑھتا ہے تو اللہ ان دو رکعات کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور ایک شخص رضاۓ خداوندی کے لئے ایک درہم بطور صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے بدالے میں جنت عطا کرتا ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص تحوزے عمل کے ذریعے سے خدا کی رضا کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس تحوزے سے عمل کو بھی برا عمل کر کے دکھانے گا اور جو لوگوں کے دکھانے کے لئے اپنے جسم کو عبادت میں تھکائے اور شب زندہ داری بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بدالے گا کہ جو بھی اس کے عمل کو سنے گا وہ اس کے عمل کو قلیل ترین خیال کرے گا۔“

فیا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر تقبل منا الیسیر واعف عننا الکثیر
برحمتك يا ارحم الراحمين.

سے خدا کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے اعتنائی کا جذبہ عطا کر دیتا ہے اور اسے دنیا کے درد اور اس کے متعلق اکاہی عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں حکمت کو جگہ دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت جاری کرتا ہے۔“

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”ان الذين اتخذوا العجل الخ (سورة اعراف آیت ۱۵۲) بے شک جن لوگوں نے گوسالہ کو معبد بنیا تو ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب نازل ہو گا اور دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت نصیب ہو گی اور ہم افتراء کرنے والوں کو اسی طرح سے بدالہ دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: ”یہی وجہ ہے کہ تم بد عتی کو ہمیشہ ذلیل اور افترا پر دوازدیکھو گے اور اللہ، رسول اور الہیت پر جو افترا پر دوازی کرے وہ ذلیل ہوتا ہے۔“

عن سفیان بن عینیہ قال سالت ابا عبد اللہ عن قول اللہ عزوجل ”الا من اتی اللہ بقلب سليم“ قال القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سورہ قال وكل قلب فيه شرك او شک فهو ساقط وانما اراد بالزهد في الدنيا لغرغ قلوبهم للآخرة.

”اصول کافی ج ۲ ص ۱۶“

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”الا من اتی اللہ بقلب سليم“ (سورہ شراء آیت ۸۹) وائے اس کے جو اللہ کے حضور ”قلب سليم“ لے کر پیش ہو۔ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”قلب سليم وہ صاف تحرادل ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو اور ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو وہ قبل قبول نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زہد کا اسی لئے حکم دیا تاکہ انسان کا

بابہ ستم

دینی فرائض کی اہمیت

قد افلاح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللغو

معرضون والذين هم للزكوة فاعلون. (سورۃ المؤمنون آیات ۱۲-۱۳)

”بے شک ان مؤمنین نے نجات حاصل کی جو اپنی نماز خشوع سے
ادا کرتے ہیں اور جو بے ہودہ بالتوں سے منہ موزنے والے ہیں اور
جوز کوہ ادا کرتے ہیں۔“

حضرت علیؐ کی نماز

جب بھی نماز کا وقت ہوتا امیر المؤمنین علیہ السلام کی حالت متغیر ہو
جاتی اور ان کے بدن پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا۔

آپؐ سے پوچھا گیا کہ آپؐ کا چہہ کیوں مضطرب ہو جاتا ہے اور آپؐ
کے روئیں کیوں کانپنے لگتے ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: ”اس لامنت کی ادائیگی کا وقت آیا جس کا وجہ زمین و
آسمان اور پہاڑ برداشت نہ کر سکے تھے۔“

جنگ صفين میں آپؐ کی ران پر تیر لگا۔ جراح نے نکلنے کی کوشش کی
تو آپؐ کو سخت تکلیف ہوئی، جراح نے لام حسن مجتبی سے شکایت کی کہ آپؐ
کے والد تیر نہیں نکلنے دیتے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر تیر یوں ان کی ران
میں پیوست رہا تو زخم زیادہ خراب ہو جائے گا۔

لام حسن علیہ السلام نے فرمایا: ”کچھ دیر صبر کرو جب میرے والد
نماز میں مصروف ہوں تو تم تیر نکال لینا۔“

امیر المؤمنین جیسے ہی نماز میں مصروف ہوئے جراح نے چیرا دے کر
تیر نکال لیا اور آپؐ نے اف تک نہ کی۔

نماز کے بعد آپؐ نے دیکھا کہ مصلی خون سے رنگیں ہے تو آپؐ نے
پوچھا: ”یہ خون کیسا ہے؟“

آپؐ کو بتایا گیا کہ جراح نے آپؐ کی ران سے تیر نکلا ہے۔ (۱)
آپؐ کی شادت کے بعد آپؐ کے غلام حضرت قبیرؓ سے آپؐ کے زہد
تقویٰ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ”تفصیل سے بتا۔ یا اختصار سے
کام لوں؟“

کہا گیا کہ اختصار سے کام لو۔

یہ سن کر حضرت قبیرؓ نے کہا: ”میرے مولا کے زہد و تقویٰ کے
لئے یہی بات کافی ہے کہ میں نے رات کو ان کے لئے کبھی بسر نہیں پھجا یا اور
دن کو ان کے سامنے کھانا کبھی پیش نہیں کیا۔“ (۲)

۱۔ انوار نعمانیہ ص ۳۲۲۔

۲۔ انوار نعمانیہ ص ۳۲۲۔

حصہ عماریاں سر کے ذمہ لگایا۔ عمار سو گئے، عباد بن بشیر نے موقع کو غنیمت کھتے ہوئے نوافل پڑھنی شروع کیں۔

ایک یہودی اتفاق سے تعاقب کرتا ہوا پڑاؤ کے قریب آیا، اس نے دیکھا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، البتہ اس نے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا تو تاریکی کی وجہ سے وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ انسان کا ہیولا ہے یا کوئی درخت کھڑا ہوا ہے۔

چنانچہ اس بات کا پتہ کرنے کے لئے اس نے ایک تیر عباد کو مارا۔ عباد تیر کھا کر بھی اسی طرح سے کھڑے رہے۔ یہودی نے دوسرا تیر اماڑا، وہ پھر بھی کمال صبر سے اسی طرح سے کھڑے رہے۔ یہودی نے تیسرا تیر ان کے مارا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور عماریاں سر کو جگایا۔ عمار نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو تعجب سے کہا: ”بندہ خدا! تو نے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہ جگایا؟“

عبد بن بشیر نے کہا: ”در اصل بات یہ ہے کہ میں نماز میں مصروف تھا اور میں نے سورہ کھف شروع کر رکھی تھی، مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں سورہ کو ادھورا چھوڑ دوں اسی لئے میں کھڑا رہا۔ اس نے دوسرا تیر مارا تو بھی میں کھڑا رہا۔ جب اس نے تیسرا تیر مارا تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے نماز مختصر نہ کی تو ممکن ہے دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند پہنچائے، اسی لئے میں نے نماز مختصر کر کے تمیس جگایا۔

جب دشمن نے ان کے ہونے کی آواز سنی تو وہ بھاگ گیا۔^(۱)

۱۔ انوار نعمانیہ ص ۳۲۵۔

امام عابد کی عبادت کی ایک جملہ

ابو حمزہ ثمہی کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھا کہ ان کے کندھے سے رد اگر گئی مگر انہوں نے اس کی پروا تک نہ کی۔ نماز مکمل ہوئی تو میں نے عرض کی: ”مولا! آپ اگر نماز میں رد کو اٹھایتے تو کیا تھا؟“

آپ نے فرمایا: ”بُوے افسوس کی بات ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بده کی نماز کا صرف وہی حصہ قابل قبول ہے جو اس نے حضور قلب سے ادا کیا ہو۔“

میں نے عرض کی: ”پھر تو ہم ہلاک ہو گئے ہماری نماز کی جو کیفیت ہے ہم اسے خوبی جانتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی کمی کی ملائی نوافل سے کرے گا۔“^(۱)

اس مجاہد کی عبادت کو دیکھیں

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگ سے ظفریاں ہو کر واپس مدینہ منورہ آرہے تھے۔ رات ہو گئی، آپ نے عمار بن یاسر اور عباد بن بشیر کو ذمہ داری سونپی کہ وہ پوری رات جاگ کر پرہ دیں۔

سارا اسلامی لشکر سو گیا اور دونوں صحابیوں نے رات کو آپس میں تقیم کر لیا۔ شب کا پہلا حصہ آدمی رات تک عباد بن بشیر نے اپنے ذمہ لیا اور آخری

۱۔ انوار نعمانیہ ص ۲۳۸۔

سے یہی بات کی تھی جو تم نے مجھ سے کہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے سجدے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اگر تم معروف ہیں خریزوں کے سجدے کو دیکھتے تو نجا نے تم کیا کہتے؟“

فضل بن شاذان کا بیان ہے کہ میں عراق گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ایک ساتھی کو طولی سجدہ کی وجہ سے ملامت کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ بندہ خدا! تو اتنے طویل سجدے آخر کیوں جالاتا ہے؟ تو عیالدار شخص ہے، مجھے اندیشہ ہے اگر تیرے سجدے اسی طرح سے جاری رہے تو پھر تو نایبنا ہو جائے گا۔

دوسرے ساتھی نے کہا: ”تم نے کافی ملامت کر لی۔ بات یہ ہے کہ اگر سجدوں کی وجہ سے کسی کی پیمانی ختم ہوتی تو انہیں اہل عمرہ مت سے نایبنا ہو چکا ہوتا کیونکہ وہ صحیح کے بعد سر سجدے میں رکھتا ہے اور ظہر کے وقت سر اٹھاتا ہے۔“

قیس بن سعد کا ذوق سخاوت و عبادت

قیس بن سعد عن عبادہ امیر المؤمنین کے طرفداروں میں سے تھے وہ انتہائی سخاوتی اور کریم الطبع انسان تھے۔ ان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ ایک مرتبہ یہ مدار ہوئے تو ان کی عیادت کے لئے بہت کم افراو آئے، انہوں نے تجھ سے کہا: ”حیرت ہے دوست میری عیادت کے لئے کیوں نہیں آئے؟“ ان کے ایک دوست نے کہا: ”اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اکثر

امہ کے اصحاب عبادت کو کتنی اہمیت دیتے تھے؟

محمد عن اہل عمرہ ہدیٰ علیم السلام کے باوثوق اصحاب میں سے تھے۔ سنی و شیعہ محدثین ان کی وفات اور جلالت کے معرف ہیں۔

ہارون الرشید کے دور افتخار میں انہیں بہت سے کوڑے مارے گئے تھے اور چار برس وہ قید میں بھی رہے۔ ان کی بہن نے ان کی کتابوں کو جمع کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ تیز بارش آئی چھت پہنچنے لگی اور ان کی کتابیں بارش میں بھیگ گئیں۔ اسی وجہ سے ان اہل عمرہ اپنے حافظہ کی مدد سے احادیث بیان کرتے تھے۔ ان کی بیان کردہ ”مرسل“ احادیث بھی ”مند“ کے حکم میں شمار کی جاتی ہیں۔

ہارون الرشید کے حکم سے سندی عن شاہک نے انہیں ایک سو بیس کوڑے جرم تشیع میں مارے تھے اور وہ کافی عرصے تک اس کے زندان میں قید رہے۔ آخر کار ایک لاکھ ایکس ہزار درہم جرماءہ ادا کر کے انہوں نے رہائی پائی۔

فضل بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن ان اہل عمرہ کے پاس گیا تو انہیں حالت سجدہ میں پایا۔ انہوں نے طویل ترین سجدہ کیا۔ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا: ”آپ بہت طویل سجدہ کرتے ہیں۔“

ان اہل عمرہ نے کہا: ”میرے سجدے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اگر تم جمیل بن درانؓ کے سجدے کو دیکھتے تو نجا نے تم کیا کہتے؟ میں ایک مرتبہ جمیل بن درانؓ سے ملنے ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں سجدے میں پایا اور انہوں نے ایک طویل سجدہ کیا، جب وہ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے بھی ان

ایک مرتبہ قیس نماز پڑھ رہے تھے جیسے ہی سجدے کے لئے بھکے تو انہوں نے دیکھا ان کے مقام سجدہ پر بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس کے قریب ہی سجدہ کیا، سانپ ان کے گلے میں لپٹ گیا ”فلم يقصر من صلاتہ ولا نقص منها شيئاً حتى فرغ ثم أخذ الشعبان فرمى به“ قیس نے نہ تو نماز مختصر کی اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کمی کی۔ پوری و لمبی سے نماز پڑھتے رہے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو سانپ کو پکڑ کر پھینک دیا۔

حضرت قلب سے دور کعت نماز

سید فتح اللہ جازی انوار نعمانی کے صفحہ ۲۳۸ پر لکھتے ہیں:

میرے ایک قابل اعتماد دوست کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ”جس کی دور کعت نماز قبول ہو گئی اسے عذاب نہیں ہو گا۔“

اس حدیث کے تحت میں نے دل میں تہیہ کیا کہ مجھے مسجد کو فہ میں جا کر دور کعت نماز ہر خیال و فکر سے آزاد ہو کر پڑھنی چاہئے۔ چنانچہ میں یہ سوچ کر مسجد کو فہ میں گیا اور دور کعت نماز نوافل کی نیت کر کے تکمیرہ الاحرام کی، اس وقت میں نے اپنے خانہ دل کو تمام الیکسی و ساووس سے پاک کیا ہوا تھا، نماز پڑھنے وقت اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسجد کو فہ اتنی بڑی مسجد ہے مگر اس کا مینار نہیں ہے، پھر یہ فکر آہستہ آہستہ لمبی ہوتی گئی، میں نے سوچا کہ اگر اس مسجد کا مینار بنایا جائے تو کتنا چونا درکار ہو گا اور کتنی اینٹیں کام آئیں گی اور ریت کمال سے لی جائے گی۔ الغرض میری دور کعت نماز بھی مکمل ہوئی اور

دوست آپ کے مقر ووض ہیں اور اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ آپ کی عیادت کو نہیں آئے۔“

حضرت قیس نے کہا: ”اَخْرِيُ اللَّهُ مَا لَا يَمْنَعُ الاخوان من العيادة.“ (خدالیکی دولت کو رسوا کرے جو بھائیوں کو عیادت سے روک دے۔) پھر انہوں نے کہا کہ جا کر مسجد میں اعلان کرو کہ قیس نے اپنا تمام قرض معاف کر دیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو ان کی عیادت کرنے والوں کا اتنا تانتا بندھا کہ ان کے گھر کی ڈیوڑ میں کثرت اڑدھام کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیس ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور اس سفر میں حضرت ابو بکر و عمر شامل تھے۔ قیس سارے راستے دوستوں میں سخاوت کرتے رہے اور حضرت ابو بکر و عمر پر بھی سخاوت کرتے رہے۔ دونوں بزرگوں نے قیس سے کہا: ”بھچے! اتنی سخاوت کرو گے تو اپنے والد کی تمام دولت جلد ختم کر بیٹھو گے۔“

جب سفر سے واپس مدینہ آئے تو ایک دن حضرت سعد نے حضرت ابو بکر سے کہا: ”آپ میرے بیٹے کو خلیل بنانا چاہتے ہیں، ہمارے خاندان میں خل و پیشی کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔“ (۱)

مؤرخ مسعودی مروج الذہب کی جلد دوم صفحہ ۳۳ پر رقم طراز ہے: قیس بن سعد اپنے دور کے مشہور زاہد اور متدين انسان تھے، حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں نمایاں مقام رکھتے تھے، ان کی عبادات و زہد ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔

رات عبادت نہیں کرنے والے گا لیکن ہدہ خدا تیرا حق بنا تھا کہ مقام دفینہ
دریافت ہونے کے شکرانے میں ساری رات عبادت کرتا۔“ (۱)

ایسے افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے جو نماز کو گشیدہ اشیاء کی
یاد وہانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جمال نمازوں کی نجات کا تذکرہ ہے
تو وہاں خشوع اور اخلاص کی شرط کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہے۔ احادیث
میں ہے کہ بے ولی سے پڑھی جانے والی نماز انسان کے منہ پر ماروی جاتی ہے۔

بے نمازی کس کے پیرو ہیں؟

یمامہ کے مسئلہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حیات طیبہ کے آخری لیام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جیسے ہی رسالت مآب
کی وفات ہوئی اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو گیا۔

وہ بدخت اہل یمامہ کے علاقائی اور نسلی تعصب کو بھرا کر کہتا تھا کہ
نبوت و امامت آخر خاندان قریش میں ہی کیوں ہو آخر ہمارا اس پر حق کیوں
نہیں مانا جاتا جبکہ ہم قریش کی بہ نسبت زیادہ شان و شوکت کے ماں ہیں اور
ہمارے شر ان کے شرلوں سے زیادہ آباد اور زرخیز ہیں، جس طرح سے محمدؐ نے
عبداللہ پر جبر نہیں آتے تھے اسی طرح مجھ پر بھی جبر نہیں نازل ہوتے ہیں اور
رجال بن نہیں اور حکم ان طفیل اس بات کے گواہ ہیں کہ محمد بن عبد اللہؐ نے
اپنی زندگی میں ہی میری نبوت کی شرآکت کا اعتراف کیا تھا۔

— محدث سلسلہ کذا احمد حسن بن سالم کا اشارہ —

ذہن میں جس مینار کے متعلق سوچ رہا تھا وہ فرضی مینار بھی مکمل ہوا۔ جب نماز
ختم ہوئی تو میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں
آیا تھا میں تو مینار بنانے آیا تھا۔

جب گشیدہ چیزیں بھی نماز میں یاد آئیں تو.....

ایک شخص نے اپنی فاضل دولت کو کسی مقام پر دفن کیا لیکن چند
دنوں بعد اسے وہ مقام بھول گیا۔ اسے جمال شبہ ہو سکتا تھا تمام جگہیں اس
نے کھو کر دیکھ لیں مگر کہیں بھی دفینہ کا ہام و نشان نہ ملا۔

وہ شخص امام ابوحنیفہ کے پاس گیا اور اپنی مشکل ان کے سامنے بیان کی
اور کہا: ”آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فراموش شدہ مقام یاد آجائے۔“

ابوحنیفہ نے کہا: ”کھالی فقہی لحاظ سے تو کوئی چیز میرے پیش نظر
نہیں التہب میں تجھے اس کا طریقہ تلاش بتا دیتا ہوں، تو ایسا کہ آج کی پوری رات
عبادت خدا میں بسر کر، امید ہے تجھے دفینہ کا مقام معلوم ہو جائے گا۔“

وہ شخص گھر آیا اور رات کے وقت اس نے نماز شروع کی، ابھی رات کا
چوتھائی حصہ ہی بتا تھا کہ اس کے ذہن میں فراموش شدہ مقام آگیا، اس نے
نماز ختم کی اور جا کر اس مقام سے اپنا دفینہ نکال لیا۔

دوسری صبح وہ امام ابوحنیفہ کے پاس گیا اور کہا: ”واقعی آپ نے صحیح
طریقہ بتایا تھا، مجھے ساری رات عبادت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، جیسے ہی

پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا مر اتنا عظیم الشان ہو کہ
ہماری امت بھی اس مر پر خوش ہو جائے۔“

میلہ نے کہا: ”اللہ نے میری اس شادی کی خوشی کی وجہ سے صحیح
اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ہمارے پیروکاروں پر معاف فرمادی ہیں۔“

سجاح نے فوراً کہا: ”اللہ نے تمہیں تین نمازیں معاف کی ہیں اور اس
عقد سعید کی خوشی میں اللہ نے ہمارے مانے والوں پر ظہر اور عصر کی نمازیں
بھی معاف کر دی ہیں۔“

جب میلہ اور سجاح کے پیروکاروں نے اس عقد کی یہ برکت دیکھی
تو بے حد خوش ہوئے کہ کسی طرح سے نماز سے تو جان چھوٹ گئی۔ (۱)
تارک الصلاۃ افراد کو غور کرنا چاہئے کہ آیا وہ میلہ اور سجاح کے
پیروکار تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے؟
اور اگر وہ میلہ اور سجاح کے پیروکار نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو امت محمدیہ پر اللہ نے نماز معاف نہیں کی ہے
انہیں ہر صورت میں نماز ادا کرنی چاہئے۔

نماز کی اہمیت

ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد میں
سو گوار خاندان سے تعزیت کرنے کے لئے مدینہ گیا۔
مجھے امام عالی مقام کے او احیین کی طرف سے امام علیہ السلام کے

۱۔ تاریخ ائمہ کوئی ص ۱۰۔

میں معروف تھا، بنی حیم میں سجاح دختر منذر نے بھی اعلان نبوت کر دیا اور
بہت سے لوگ اس عورت کو بھی نبی مانتے گے۔

جب وقت نماز ہوتا تو سجاح کے پیروکار اذان میں یہ الفاظ کہتے تھے:
”اشهد ان سجاحاً نبیة اللہ۔ (میں گواہی دیتا ہوں کہ سجاح اللہ کی نبی ہے۔)“

سجاح اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کو لے کر میلہ سے ملاقات
کے لئے روانہ ہوئی اور یہاں میں چشم فلک نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ ایک
ہی وقت میں نبوت کے دو جھوٹے دعویدار آپس میں مل کر بیٹھے اور باہمی
مذاکرات کئے۔

سجاح نے میلہ سے کہا: ”میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جو کلام تم پر
نازل کیا ہے اس میں سے کچھ کلام مجھے بھی سناؤ۔“

میلہ نے کہا: ”ضرور ساتا ہوں، لو کلام الہی سنو! لا اقسام بھدا
البلد لا تبرح من هذا البلد حتى تكون ذا مال في ولد وفرد وسفر وعدد
على رغم من حسد. میں اس شر کی قسم نہیں اٹھاتا، تو اس شر سے اس وقت
تک نہ جائے گا جب تک تو مال و اولاد کا مالک نہ بن جائے، اگرچہ حد کرنے
والے حد کرتے رہیں۔“

سجاح نے یہ کلام سن کر کہا: ”بے شک میں تصدیق کرتی ہوں کہ یہ
اللہ کا کلام ہے۔“

پھر میلہ نے سجاح سے کہا: ”میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میرے عقد
میں آجائو تاکہ دونوں نبوتیں اکٹھی ہو جائیں۔“

سجاح نے میلہ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کہا: ”ٹھیک ہے مجھے اس

ملت پر نہیں مرے گا۔)

پھر آپ نے فرمایا: "ان اسرق الناس من سرق صلاتہ۔ (لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔)" (۱)

خواجہ ربع کی عبادت

شah عباس ول نے شیخ بیهاء رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جس میں اس نے خواجہ ربع کی شخصیت کے متعلق ان سے استفسار کیا۔ (۲)

شیخ بیهاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا: "آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ خواجہ ربع کا تعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کے باوقا اصحاب سے ہے اور خلیفہ ثالث کے قتل میں بھی ان کا دخل تھا۔ جب اسلامی شکر جہاد کے لئے یہاں آیا تو خواجہ ربع بھی ان کے ساتھ یہاں آئے اور یہیں ان کی وفات ہو گئی۔"

امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خراسان آنے کا ہمیں بس بیس فائدہ ہوا کہ ہم نے خواجہ ربع کی زیارت کر لی۔

ان اخیر اپنی کتابِ الكامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں کہ خواجہ ربع کے پاس اعلیٰ نسل کا ایک اصیل گھوڑا تھا اس وقت اس گھوڑے کی قیمت تیس ہزار درہم تھی۔ خواجہ ربع نماز پڑھنے لگے اور گھوڑا ان کے سامنے بندھا ہوا تھا، چور آیا اور اس نے گھوڑے کو کھولا اور اس پر سورا ہو کر چلا گیا۔ خواجہ ربع یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور انہوں نے نہ تو نماز توری اور نہ ہی نماز کو مختصر کیا۔

۱۔ محسن بر قی ج اص ۸۲۔

۲۔ خواجہ ربع کا ہزار مشد مقدس میں ہے اور مریع خلاق ہے۔

آخری لمحات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے حکم دیا میرے تمام رشتہ داروں کو بلا یا جائے۔

حکم کے تحت تمام رشتہ دار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب کو گواہ کر کے کہا: "ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة۔ (جو شخص نماز کو حقیر جانے اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔)"

ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ سے ملت ہو گئے۔ (۱)

سب سے بڑا چور

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو کوئے کی طرح زمین پر ٹھوٹنگے مار رہا تھا۔

جب اس نے نماز ختم کی تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا: تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟"

اس نے کہا: "ایک طویل عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔"

آپ نے فرمایا: "تیرا عمل خدا کے سامنے کوئے کے ٹھوٹنگے مارنے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

لو مت مت علی غیر ملة ابی القاسم صلوات اللہ علیہ والہ وسلم۔ (اگر اسی حالت میں تو مر گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

۱۔ محسن بر قی ج اص ۸۰۔

قلب کی سختی دور ہو چکی ہے تو اپنے آپ سے کہتے : "یار بیع قد رجعناک فاعمل . (ریبع! ہم نے تجھے واپس بھیج دیا ہے اب جا کر نیک عمل کر۔)" (۱)

سیدہ نفیہؓ کی عبادت

حضرت سیدہ نفیہؓ اپنے زمانے کی عابدہ وزادہ خاتون تھیں۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے : سیدہ نفیہؓ بنت حضرت حسن بن حضرت زید بن امام حسن مجتبی علیہ السلام۔

سید مؤمن شبینجی نور الابصار میں اور شیخ محمد صبان اسعاف الراغبین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ نفیہؓ کی ولادت ۲۵ھ میں مکہ مغزہ میں ہوئی اور مدینہ میں انہوں نے پرورش پائی۔

آپ کے دن روزہ اور راتیں عبادت اللہ میں بس رہتی تھیں۔ آپ دولت مند خاتون تھیں اس نے ہمیشہ فقراء و مساکین اور معذوروں کی مدد فرماتی تھیں۔ آپ نے تیس بار حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور اکثر مرتبہ پاپیادہ حج کئے۔

حضرت زینب جو کہ حضرت نفیہؓ کی بھتیجی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے چالیس سال تک اپنی پھوپھی کی خدمت کی اور اس پوری مدت میں میں نے انہیں رات کو سویا ہوا نہیں دیکھا اور دن کے انہیں وقت کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔

میں نے پھوپھی جان سے کہا : "آپ اپنی جان پر رحم کریں۔"

تحفۃ الاجاب بحدث قمی ص ۹۷-۹۸۔

لوگ خواجہ ریبع کے پاس تسلی دینے کے لئے آئے تو انہوں نے کہا : "میں نے خود اپنی آنکھوں سے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔" لوگوں نے کہا : "پھر آپ نے چور کو کیوں نہ پکڑا؟"

خواجہ ریبع نے کہا : "کہت فیما احباب الی من ذلك يعني الصلة . (میں اس سے کہیں زیادہ محبوب کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔)"

خواجہ ریبع کے پاس بیٹھے ہوئے افراد نے چور پر لغت و بدعا شروع کی تو خواجہ نے فرمایا : "نہیں اسے بدعا مت دو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔"

جب خواجہ ریبع کی وفات ہو گئی تو ان کے ہمسایہ کی بیشی نے اپنے باپ سے پوچھا : "لباجان! ہمارے گھر کے قریب پلے ایک ستون ہوتا تھا اب نظر نہیں آتا وہ ستون کہاں گیا؟"

باپ نے بیشی کے جواب میں کہا : "جان پدر! تمہیں مخالفہ ہوا ہے دراصل رات کے وقت تم کوٹھے کی چھت پر جا کر دیکھتی تھیں تو تمہیں ایک ستون سا نظر آتا تھا وہ کوئی ستون نہیں تھا وہ اللہ کا صالح ترین بندہ خواجہ ریبع ہوتا تھا جو ساری رات قیام و قرأت میں بس رکھتا تھا۔

خواجہ ریبع نے گھر میں اپنے باتھوں سے اپنے لئے قبر کھودی ہوئی تھی جب کبھی انہیں اپنے اندر قساوت قلبی کا احساس ہوتا تو قبر میں جا کر بیٹھ جاتے اور یہ آیت پڑھتے : "رب ارجعوناً لعلی اعمل صالح فيما ترکت . (سورہ مؤمنون آیت ۹۹-۱۰۰) خدا! مجھے واپس بھیج تاکہ جو عمل میں نہیں جالایا تھا وہ اب جالاؤ۔"

کئی مرتبہ وہ اسی آیت کی تکرار کرتے اور جب انہیں محسوس ہوتا کہ

انہوں نے فرمایا: "میری مدت سے حضرت تھی کہ موت آئے تو روزہ کی حالت میں آئے اب جب کہ مجھ پر موت وارد ہو رہی ہے تو میں روزہ افطار کر لوں؟"

پھر سیدہ نے سورہ انعام کی تلاوت شروع کی جب وہ "لهم دار السلام عند ربهم" کی آیت مجیدہ پر پہنچیں تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

سیدہ کی موت سے مصر کے ہر گھر میں صفائی مخجھ گئی۔ شر کے تمام چھوٹے بڑے ملکی کے جنازے میں شامل ہوئے۔ سیدہ کو اس قبر میں دفن کیا گیا جو انہوں نے اپنی صحن میں بنائی ہوئی تھی۔

سیدہ کے خاوند حضرت احراق مؤمن بن الامام جعفر صادق علیہ السلام نے ملکی کے جنازے کو مدینہ لے جانے کا ارادہ کیا۔

تمام اہل مصر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ایسا نہ کریں، الہبیت رسول میں سے ایک سیدہ کا مزار ہمارے پاس بطور برکت ضرور ہونی چاہئے۔

مگر حضرت احراق مدینہ میت لے جانے پر اصرار کرتے رہے۔ اس رات سوئے تو عام خواب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔

آپ نے فرمایا: "میری بیشی کو مصر ہی میں رہنے والے کی برکت وچہ سے مصر والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔" (۱)

۱۔ تحمدنا لله رب العالمين ص ۳۹۳

میری بھوپھی نے جواب دیا: "بیشی! میں اپنی جان پر کس طرح سے شفقت کروں جبکہ میرے راستے میں بہت سی گھائیاں ہیں جن سے عباد صالحین کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا۔"

سیدہ نفیہ کا نکاح حضرت احراق مؤمن فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا اور ان سے دو اولادیں بنام قاسم و ام کلثوم پیدا ہوئیں۔

حضرت سیدہ نفیہ اپنے شہر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لئے فلسطین گئیں، وہاں سے واپسی پر مصر تشریف لائیں، ایک مکان لے کر رہائش اختیار کی۔ ان کے پڑوس میں ایک نایاب یہودی عورت رہائش پذیر تھی، وہ سیدہ کی عبادت کی شہرت سے متاثر ہو کر سیدہ کی زیارت کے لئے آئی اور اس نے سیدہ کے وضو کا پانی لے کر آنکھوں پر لگایا تو اس کی بینائی حال ہو گئی۔ سیدہ نفیہ کی کرامت سے متاثر ہو کر بہت سے یہودی گھرانے مشرف ہے اسلام ہوئے۔

اہل مصر سیدہ نفیہ سے والمانہ عقیدت رکھنے لگے۔ دور دراز مقامات سے مستورات ان کی زیارت کے لئے آتیں اور سیدہ کے روحاں فیوض سے استفادہ کرتیں۔ قیام مصر کے دوران ہی آپ نے وفات پائی۔

سیدہ نے اپنی صحن میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور ہمیشہ اپنی قبر میں بیٹھ کر نماز اور تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ نے اس قبر میں بیٹھ کر چھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کا قرآن کا ختم کیا تھا۔

ماہ رمضان ۲۰۸ھ حالت روزہ میں تھیں کہ ان پر نزع کا عالم طاری ہوا ان سے کہا گیا کہ روزہ افطار کریں۔

خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھا۔)

جنگ جمل میں مالک اشتر اور عبد اللہ بن زیر آپس میں نبرد آئما ہوئے، مالک اور عبد اللہ پلے تو ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کرتے رہے آخر کار مالک نے پر درپے حملہ کر کے ان زیر کو گھوڑے سے گرایا اور خود اس کے سینے پر سوار ہوئے، عبد اللہ بن زیر نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مالک کے شکنچے سے آزاد کرایا اور پھر مالک کے سامنے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن حضرت مالک روزے سے تھے اور اس سے دو دن قبل مسلسل یہمار رہے تھے اور یہماری کی وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس طرح سے مالک مسلسل تین روز سے بھوکے تھے ورنہ عبد اللہ بن زیر کا ان کے شکنچے سے نکلا محال تھا۔

جنگ جمل کے بعد ایک دن حضرت عائشہؓ نے مالک سے کہا: ”میرے بھانجے کو جنگ جمل میں تو قتل کرنا چاہتا تھا؟“

اس کے جواب میں حضرت مالک اشتر نے یہ دو شعر پڑھے:

اعایش لولا انتی کنت طاویا

ثلاثا لالقیت ابن اختک هالکا

فجاجه منی اکله وشباه

وخلوة جوف لم يكن متماسكا

عائشؓ! اگر میں تین دن سے مسلسل بھوکا نہ ہوتا تو تو اپنے بھانجے کو

مقتول پاتی۔ اس کو اس کی جوانی اور یہ شکمی نے نجات دلائی اور میں خالی پیٹ

ہونے کی وجہ سے اس پر اپنی گرفت بر قرار نہ رکھ سکتا تھا۔

مالک اشترؓ کب روزہ رکھتے تھے؟

نوح البلاغہ کے شارح انن الی الحدید معجزی رقم طراز ہیں: مالک اشترؓ شجاع و بیرگوار، حلیم و بردبار اور شاعر شیریں گفتار تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے شیعوں میں انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ نصرت امیر المؤمنین کے لئے آپ ہمیشہ کوشش رہتے تھے۔

للہ ام قامت عن الاشتہر لو ان انسانا يقسم ان الله تعالى مالخلق فی العرب ولا فی العجم اشجع منه الا استاذہ علی بن ابی طالب علیه السلام لما خشیت عليه الاثم.

اس ماں پر آفرین ہے جس نے مالک کی تربیت کی، اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ عرب و عجم میں خداوند عالم نے مالک سے بودا یہاد رسوائے اس کے استاد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیدا نہیں کیا تو قسم کھانے والا گناہگار نہیں ہو گا۔

انن الحدید مزید لکھتے ہیں کہ آفرین ہے مالک پر جب مالک کی شہادت کے بعد کسی نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ مالک کیا تھے؟ تو کسی نے کیا خوب جواب دیتے ہوئے کہا تھا: ”میں مالک کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں جس کی زندگی شامیوں کے لئے نکست و ناکامی کا باعث تھی اور جس کی موت اہل عراق کی نکست کا ذریعہ بنی۔“

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے مالک کی شخصیت کے متعلق ایک جامع تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”کان الاشتہر لی کما کنت لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (مالک میرے لئے ایسے ہی تھے جیسے میں رسول

میں نے کہا: "اہی تو آپ کا سن چھوٹا ہے اور آپ پر اس وقت جغ فرض نہیں ہوا تو آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟"

پچھے نے کہا: "شخ! کیا تو نے مجھ سے بھی چھوٹے پھوٹ کو کبھی مرتے نہیں دیکھا؟"

میں نے کہا: "آپ کی سواری کماں ہے اور زاد راہ کماں ہے؟"

پچھے نے کہا: "زادی تقوی و راحلی رجلی و قصدی مولای۔ (میرا تقوی میرا زاد راہ ہے، میرے پاؤں میری سواری ہیں اور میرا مقصد میرا مولا ہے۔)"

میں نے کہا: "آپ کے پاس کھانے کے لئے خوراک تک نہیں ہے تو بھلا آپ اتنا بسا فر خوراک کے بغیر کیسے طے کریں گے؟"

پچھے نے جواب دیا: "اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو کیا تم کھانا اپنے گھر سے لے کر جاؤ گے؟"

میں نے کہا: "نہیں۔"

تو پچھے نے کہا: "جس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے تو مجھے خوراک بھی وہی فراہم کرے گا۔"

میں نے کہا: "تو تیزی سے چلیں تاکہ آپ قافلے سے مل جائیں۔"

پچھے نے کہا: "میرے ذمہ سعی و کوشش ہے اور رہنمائی کرنا اس کا کام ہے۔ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "وَالَّذِينَ جاهدُوا فِيْنَا لِنَهَيْنَاهُمْ سَبَلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعُ الْمُحْسِنِينَ" (سورہ عنكبوت آیت ۲۹) (جو لوگ ہمارے لئے کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں

زہیر بن قیس کہتا ہے کہ ایک دن میں ایک حمام میں عبد اللہ بن زیر کے ساتھ تھامیں نے اس کے سر پر ایک ضربت کا نشان دیکھا اور وہ نشان اتنا گھرا تھا کہ تیل کی پوری شیشی اس میں ڈالی جاتی تو ایک قطرہ بھی باہر نہ نکلتا۔ ان نزیر نے ضربت کا نشان دکھاتے ہوئے مجھ سے کہا: "جانتے ہو یہ کس کا لگایا ہوا زخم ہے؟"

میں نے کہا: "مجھے معلوم نہیں ہے۔"

ان نزیر نے کہا: "یہ زخم تمیرے ان عم ماںک اشتز کا لگایا ہوا ہے۔" (۱)

عبدات کے لئے وقت کو غنیمت جانیں

فتح موصیٰ، ابراہیم بن اوہم سے نقل کرتے ہیں کہ میں جانج کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور ہمارا قافلہ ایک بیلان سے گزر رہا تھا۔

میں انسانی حاجت کے لئے قافلے سے جدا ہوا تو میں نے اس بیلان میں ایک پچھے کو دیکھا جو کہ تن تھا اکیلا مسافر تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا: "سبحان اللہ! ایک چہ بغير قافلے کے نجائب کمال جارہا ہے؟"

میں اس پچھے کے قریب گیا اور اسے سلام کیا اور پوچھا: "آپ کمال جارہے ہیں؟"

پچھے نے جواب دیا: "میں خانہ خدا کی زیارت کے لئے جارہا ہوں۔"

۱۔ المکی والاتفاق ج ۲ ص ۲۶۷۔ ۲۔ ماںک اور ان نزیر کے بیگ کا واقعہ مجلس المؤمنین ص ۲۸۶ سے مانعوذ ہے۔

۳۔ میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ اس باب اور وسائل زندگی خداوند عالم کے
با تحفہ میں ہیں۔

۴۔ اس کی قضاو قدر کو تمام چیزوں میں جاری اور نافذ جانتا ہوں۔
یہ سن کر میں نے کہا: ”واہ واہ آپ اس زاد راہ سے دنیاوی بیلاباں تو کیا
آخرت کی تمام گھاثیاں بھی طے کر سکتے ہیں۔“ (۱)

تارک حج و زکوٰۃ یہودی کہ نصرانی؟

آقائے شیخ اسماعیل جاپتوی مقیم تران نے شیخ حسن وکیل عراقی کی زبانی
نقل کیا ہے کہ میں نے ایک رات خوب دیکھا کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس
پر نزع کا عالم طاری ہے اس کی عیادت کے لئے میں اور علمائے عراق میں سے
آقاؤ الردین اور حاج محمد خان اور آقائے سید احمد اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور دو
اور اشخاص اس کی پائنتی کی جانب بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں پہچاتا۔
اس کی پائنتی کی جانب بیٹھے ہوئے اشخاص اس سے باربار اصرار کر رہے
ہیں کہ یہودی ہو کر مرویان نصرانی ہو کر مروف۔
ہم جو عیادت کے لئے بیٹھے ہیں ہم سب خاموش بیٹھے ہیں۔

آخر کار اس نے کہا: ”میں نصرانی ہو کر مرتا ہوں۔“
جیسے ہی صحیح ہوئی میں اس شخص کے گھر کی طرف گیا تاکہ جا کر
دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ ایک دوست ملے اور
کہا کہ فلاں شخص بیمار ہے آئیں اس کی عیادت کریں۔

۱۔ حصار الانوار ج ۱ ص ۱۱۔

اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور پیغمبر اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔)“
جب میں اس پچ سے موجفتگو تھا تو میں نے دیکھا ایک خوش اندام
سفید لباس پہنے ہوئے جوان آیا اور اس نے پچ کو سلام کیا اور اس سے معافہ
بھی کیا۔

میں نے اس جوان سے کہا: ”تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تجھے
اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی ہے اور جس نے تیرے ظاہر کو آراستہ کیا ہے، مجھے بتاؤ
یہ چچے کون ہے؟“

جو ان نے کہا: ”تم نہیں جانتے یہ علی بن حسین بن علی بن اہل طالب
علیہ السلام ہے۔“

پھر میں نے پچ کو قسم دے کر کہا: ”تجھے تیرے آبائے طاہرین کی
قسم! یہ جوان کون ہے؟“

پچ نے کہا: ”یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام ہیں، یہ روزانہ ہمیں
سلام کرنے آتے ہیں۔“

پھر میں نے زین العابدین علیہ السلام سے کہا: ”آپ کو آپ کے
آبائے طاہرین کی قسم آپ اس بیلاباں کو بغیر کسی زاد راہ کے کیسے طے کرتے
ہیں؟“

امام زین العابدین نے فرمایا: ”میں ان بیلاباں کو چار چیزوں سے طے
کرتا ہوں:

۱۔ تمام دنیا کو اللہ کے زیر اختیار اور اس کی ملکیت میں سمجھتا ہوں۔

۲۔ تمام لوگوں کو خدا کا غلام اور اسکے دستِ خوان پر پلنے والا سمجھتا ہوں۔

الصالح يقطع دابرہ والاستغفار يقطع وتبہ ولکل شے زکوہ و زکوہ
الابدان الصیام.

عن ابی عبد اللہ فی قول اللہ عزوجل واستعینوا بالصبر والصلوۃ قال
الصبر الصیام و قال اذا نزلت بالرجل النازلة الشدیدہ فلیصم فان اللہ
تعالیٰ يقول واستعینوا بالصبر والصلوۃ یعنی الصیام.

"وانی رج ۲ باب صوم ص ۶"

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: "کیا میں
تمیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو شیطان تم سے اتنا دور ہو
جائے گا جتنا کہ مغرب سے شرق دور ہے؟"
صحابہ نے عرض کی: "یار رسول اللہ! ضرور بتائیں۔"

آپ نے فرمایا: "روزہ شیطان کے چڑے کو سیاہ کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر
توڑ دیتا ہے اور خدا کے لئے کسی سے محبت رکھنا اور عمل صالح کے لئے مدد کرنا
شیطان کی قوت کو سلب کر دیتا ہے۔ توبہ و استغفار سے اس کی رگ گردن کث
جائی ہے اور ہر چیز کی زکوہ ہوتی ہے اور اجسام کی زکوہ روزے ہیں۔"

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "و استعینوا بالصبر
والصلوۃ" کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: "صبر سے مراد روزے ہیں، جب
کبھی کسی پر سخت مصیبت نازل ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر سے مراد روزے
ہیں۔"

عن ابی جعفر قال لاتھاون بصلاتك فان النبي قال عند موته ليس مني من

ہم دونوں جب وہاں پہنچے تو مجھ سے پہلے تینوں عراقی علماء وہاں اس
کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔
چند لمحات میں یہمار پر نزع کا عالم طاری ہوا، مجھے اس کی پائنتی کوئی
فرد نظر نہیں آیا، ہمارے سامنے ہی اس شخص کی روح نے پرواز کی، میں نے
مرنے والے کے لواحقین سے پوچھا کہ آیا یہ شخص تارک حج تھا؟ (کیونکہ
احادیث میں وارد ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی یا
نصرانی ہو کر مرتا ہے)۔

اس کے لواحقین نے کہا: "نمیں وہ تارک حج نہیں تھا۔"

پھر میں نے پوچھا: "کیا یہ شخص مانع زکوہ تھا؟"

اس کے لواحقین نے بتایا: "جب ہاں! یہ شخص صاحب نصاب تھا لیکن
زکوہ ادا نہیں کرتا تھا۔"

مجھے اپنے خواب کی صداقت کا لیقین ہو گیا کیونکہ احادیث میں مانع
زکوہ کے لئے بھی یہی الفاظ وارد ہیں کہ مانع زکوہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے
(۱)

چند روایات

ان النبي قال لاصحابه الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تبعد الشيطان
منكم كما تبعد المشرق من المغرب قالوا بلى يارسول الله قال الصوم
يسود وجهه والصدقة يكسر ظهره والحب في الله والموازنة على العمل

باتیانہ ایاہا قاصدا الیہا و کل من ترك الصلاۃ قاصدا لترکھا فليس یکون
قصده لترکھا اللذة فاذ انفیت اللذة وقع الاستخفاف واذا وقع
الاستخفاف وقع الكفر.

”واني ۲ ص ۱۳“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ایک شخص نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کسی نیک عمل کی
نصیحت فرمائیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ”جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا کیونکہ جان بوجھ کر نماز
ترک کرنے والے سے ملت اسلام بیزار ہے۔“

مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال
کیا: ”مولانا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم زانی کو کافر کا نام نہیں دیتے اور تارک
الصلوٰۃ کو کافر کہتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟“

امام عالی مقام نے فرمایا: ”زانی اور اس جیسا کوئی اور شخص جب بدکاری کرتا ہے
تو وہ جذبہ شوت سے مغلوب ہو کر ایسا کرتا ہے، مگر تارک الصلوٰۃ جب نماز کو
ترک کرتا ہے تو وہ اسے حریر سمجھ کر ترک کرتا ہے۔ جب بھی کسی زانی کا
غورت سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جب تارک
الصلوٰۃ نماز کو ترک کرتا ہے تو اسے کسی طرح کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔
جب تم تارک الصلوٰۃ سے لذت کو غنی کرو گے تو باقی نماز کو حریر سمجھنا رہ جائے
گا اور جمال ذہن میں نماز کو حریر سمجھنے کا خیال آجائے تو اس وقت کفر لازم
آتا ہے۔“

استخفف بصلاتہ ليس من شرب المسكر لا يبرد على الحوض
لَا وَاللّهُ.

عن ابی عبد اللہؑ قال: قال رسول اللہؐ لا يزال الشیطان ذرعاً من المؤمن
ما حافظ على الصلوٰۃ الخمس فإذا ضيغهن تجرأ عليه فادخله في
العظام.

”واني ۲ ص ۱۲، ۱۳“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اپنی نماز کو معمولی خیال نہ کرنا کیونکہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ وہ شخص مجھ
سے نہیں جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے، وہ شخص مجھ سے نہیں جو نثر آور چیز پیئے،
خدا کی قسم وہ حوض کو شرپ کبھی وارونہ ہو گا۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا: ”جب تک مؤمن نماز بمحاجنہ کی حفاظت کرے اس وقت تک
ابنیس اس سے خوف زدہ رہتا ہے اور جب وہ نماز کو ضائع کر دے تو ابنیس اس پر
جرأت پالیتا ہے اور اسے گناہات کبیرہ میں داخل کر دیتا ہے۔“

عن ابی عبد اللہؑ قال جاء رجل الى النبيؐ فقال يا رسول اللہ اوصني فقال
لاتدع الصلاة متعتمداً فإن من تركها متعتمداً فقد برأت منه ملة الاسلام.

مسعدہ بن صدقہ انه قال سئل ابو عبد اللہؑ مابال الزانی لانسماهہ کافرا
وتارک الصلاۃ نسمیہ کافرا وما الحجۃ في ذلك فقال لان الزانی وما
اشبهه انما یفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه وتارک الصلاۃ لا یترک کها
الا استخفافا بها و ذلك لانك لا تجد الزانی يأتي المرأة الا وهو مستلذ

پچھلی نماز کے بعد سے جو تم نے اس نماز تک گناہ کئے تھے تمہارے وہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی نماز سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔“
عن ابی عبد اللہؑ قال مربالنسی رجل وہو يعالج بعض حجراته فقال يا رسول اللہ الا اكفيك فقال شانك فلما فرغ قال له رسول اللہ حاجتك قال الجنة فاطرق رسول اللہؑ ثم قال نعم فلما ولیؑ قال له يا عبد اللہ اغنا بطول السجود.

عن الشحام عن ابی عبد اللہؑ قال سمعته يقول احب الاعمال الى الله عزوجل الصلة وهي اخر وصايا الانبياء فما احسن من الرجل ان يغتسل او يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يستحي حيث لا يراه انيس فيشرف عليه وهو راكع او ساجد ان العبد اذ سجد فاطال السجدة نادى ابليس يا ولیه اطاع وعصيت وسجد وايست.

”وانی ج ۲ ص ۱۰، ۹“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھرہ بنانے میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں آپؐ کی مدد کروں؟“

آپؐ نے فرمایا: ”اگر چاہو تو ضرور کرو۔“

جب کام مکمل ہو گیا تو آپؐ نے اس کی حاجت دریافت کی۔ اس نے عرض کی: ”میں جنت چاہتا ہوں۔“

آپؐ نے فرمایا: ”اچھا!“

جب وہ جانے لگا تو آپؐ نے فرمایا: ”لبے سجدے کر کے ہماری مدد کرو۔“

عن ابی جعفرؑ قال: قال رسول اللہؓ لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل منه في كل يوم خمس مرات كان يبقى في جسمه شيء من الدرن؟ قلنا لا. قال فان مثل الصلاة كمثل النهر الجارى كلما صلى صلوة كفرت ما يبيهما من الذنب.

عن ابی جعفرؑ عن النبيؐ قال فاذ اقمت الى الصلوة وتوجهت وقرأت ام الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فاتمت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلوة التي قدمتها الى الصلوة المؤخرة فهذا لك في صلاتك.

”وانی ج ۲ ص ۱۰“

امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں سے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟“
لوگوں نے کہا: ”نہیں۔“

آپؐ نے فرمایا: ”نماز کی مثال بھی بستی ہوئی نہر کی طرح ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نماز کے بعد والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

اسی اسناد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم نماز کی تیاری کرتے ہو اور قبلہ رُو ہو کر نماز شروع کرتے ہو پھر اس میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو، پڑھتے ہو، پھر رکوع کرتے ہو اور رکوع کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہو اور سجود، تشہد و سلام جالاتے ہو تو

باب نهم

زہد و پارسائی

لامدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة.

الحياة الدنيا.....الخ (سورة حجر آیت ۸۸)

”ان میں سے کچھ لوگوں کو جو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے نماں
کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، تم اپنی نظریں اور ہر نہ بڑھاؤ۔“

مولائے متقیان کا زہد

سوید بن عفیلہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المؤمنین علیہ
السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کو ظاہری خلافت مل چکی تھی۔
میں نے دیکھا کہ آپ ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس گھر میں اس
چٹائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔

میں نے آپ سے عرض کی : ”یا علی! اس وقت پورا بیت المال آپ کے
اختیار میں ہے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ گھر میں ایک چٹائی کے علاوہ اور کچھ
نظر نہیں آتا۔“

زید شحام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے سنا : ”اللہ کو
تمام اعمال میں سے نماز زیادہ پسند ہے اور یہ انجیائے کرام صلوٰات اللہ علیٰہم کی
آخری وصیت ہے اور کسی انسان کے لئے یہ بات کتنی اچھی ہے کہ انسان عسل یا
وضو کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو اور وہاں
جا کر خدا کے حضور رکوع اور سجده کرے، جب بھی کوئی شخص لمبا سجده کرتا ہے
تو اس وقت اپنی آواز دے کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس اس نے اطاعت کی اور
میں نے تأثیر مانی کی، اس نے سجده کیا اور میں نے انکار کیا۔“

آپ نے فرمایا: "اس سے نفس بہتر طور پر رسوأ ہوتا ہے۔ میرے طرز زندگی کو دیکھ کر مؤمن میری پیروی کریں گے اور جب تک میں اپنے دوستوں سے مخفی نہ ہو جاؤں اسی طرح سے زندگی بسر کر تارہوں گا۔" (۱)

اکی اور داستان

ابو رافعؑ کہتے ہیں کہ عید کے دن میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بیت الشرف میں حاضر ہوا، آپؑ کے سامنے مر گئی ہوئی ایک تھیلی پیش کی گئی، آپؑ نے اس کی مر کو توڑا۔ تھیلی کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو کی خشک روٹیاں تھیں۔

آپؑ نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کیں، میں نے عرض کی: "مولانا! جو کی روٹیوں کو تھیلی میں مدد کر کے مر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟" آپؑ نے فرمایا: "اس لئے میں نے انہیں سر محبت کر دیا ہے کہ تاکہ حسن و حسین روٹیوں کو کھی یا رونگ زیتون سے ترنہ کر دیں۔"

آپؑ کے لباس کو کئی دفعہ لیف خرما کے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ جب آپؑ کھانا تناول کرتے تو زیادہ تر سالن کی جائے روٹی کو نمک یا سرکہ سے تناول فرماتے تھے اور کبھی کبھار بزری سے بھی روٹی کھایا کرتے تھے، اگر اس سے بھی بہتر طور پر کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو پھر انہی کے دودھ سے کھانا کھاتے۔ آپؑ گوشت بہت ہی کم استعمال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے شکم کو حیوانات کا قبرستان مت بناؤ۔ مگر اس کے باوجود بھی آپؑ سب لوگوں سے

۱۔ اوار انعامی ص ۱۸۷۔

آپؑ نے فرمایا: "سویدن غلقہ! عقل مند شخص کو جس گھر سے نقل مکانی کرنی ہو وہاں کچھ سامان جمع نہیں کرتا، یہ دنیا ہمارے لئے ایک عارضی سرائے اور مسافر خانہ ہے، ہمارے لئے امن و راحت کا ایک گھر ہے جہاں ہم اپنا اسباب بھیج رہے ہیں اور عقریب میں اس گھر کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔"

پادشاہ و کلبہء ایوان او

یک حسام و یک زرہ سامان او

اقبال

علیؑ ایسے بادشاہ تھے جن کا ایوان جھونپڑی تھی اور جن کا کل اثاثہ ایک زرہ اور ایک تلوار پر مشتمل تھا۔

اسود اور عالمہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؑ کے سامنے آپؑ کی روٹی لائی گئی روٹی لیف خرما کے بنے ہوئے ایک طبق میں تھی اور اس میں جو کی دو سو کھلی روٹیاں تھیں، روٹیوں پر چھان صاف نظر آ رہا تھا، آپؑ نے روٹی اٹھا کر زانو پر رکھی اور اس خشک روٹی کو توڑ کر نمک کے ساتھ تناول فرمائے گے۔

آپؑ کی کینز کا نام فضہ تھا، میں نے فضہ سے کہا: "کم از کم تم جو کے آٹے کو چھان ہی لیتیں تو بھی بہتر تھا۔"

فضہ نے کہا: "مولانا خود ہی چھاننے کی اجازت نہیں دیتے۔" امیر المؤمنین علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ جہاری طرف دیکھا اور فرمایا: "میں نے آٹا چھاننے سے انہیں خود منع کیا ہے۔" میں نے عرض کی: "مولانا! وہ کس لئے؟"

ساتھی نے حلوے کے لئے اصرار کیا تو شیخ نے کہا: ”بھائی آپ کھاتے ہیں تو کھائیں میں نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ قرض کی ادائیگی تک مجھے اپنے زندہ رہنے کا یقین نہیں ہے۔“

تران سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نجف اشرف پڑے گئے اور چند سال بعد شیعیان جہاں کے مرجع عالیٰ قدر کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

ایک دن آپ کا وہی پرانا ساتھی نجف اشرف میں آپ سے ملا اور کہا: ”آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے توفیق الہی آپ کے شامل حال ہوئی اور آپ مر جیت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے؟“

آپ نے فرمایا: ”بھائی میں تو حلوہ کے نیچے والی روٹی کا نکلا بھی نہیں کھاتا تھا اور آپ ناں و حلوہ کھاتے تھے۔“ (۱)

شیخ انصاری کی ایک بیشی مدرسہ میں زیر تعلیم تھی اور تمام طالبات کے دوسرے کا کھانا ان کے گھر سے آیا کرتا تھا۔

ایک دن پنجی نے ماں سے شکایت کی: ”امی جان! ہمارے مدرسے میں ہر چیز کا کھانا ان کے گھر سے آتا ہے جو پر تکلف ہوتا ہے اور آپ میرے لئے جو کھانا بھیجتی ہیں وہ خشک روٹی اور پنیر کے ایک نکلے پر مشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی سیلیوں سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔“

جب شیخ نے پنجی کی بات سنی تو پنیدی سے کہا: ”آنندہ اس کے لئے صرف خشک روٹی بھیجا کریں تاکہ اسے پنیر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے۔“

۱۔ زندگی و شخصیت شیخ انصاری ص ۷۰۔

زیادہ طاقتور تھے اور آپ کی قوت بازو کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ کم خوری کی بدولت آپ کی قوت میں کسی طرح کی کمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ (۱)

عرض مترجم: موقع کی مناسبت سے علامہ اقبال کی ایک رباعی یاد آرہی ہے:

دلوں کو مرکزِ مر و وفا کر
حریمِ کبریا سے آشنا کر
جسے ناںِ بخوبی خوشی ہے تو نے
اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر

شیخ مرتضی انصاری کا انداز زندگی

شیخ مرتضی انصاری نے جب تعلیم دین کا ارادہ کیا تو پہلے پہل اپنے وطن کا شان سے ثامن الائمه امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے پھر تران آئے اور حوزۃ علیہ میں داخل ہوئے اور مدرسہ مادر شاہ کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کی، ان کے ساتھ اس کمرے میں ایک طالب علم اور بھی قیام پذیر تھا۔

ایک دن شیخ نے اپنے ساتھی کو روٹی لینے کے لئے بھیجا اور اسے روٹی کے پیسے دیے، جب ساتھی واپس آیا تو اس روٹی پر حلوہ بھی رکھا ہوا تھا۔

شیخ نے تجھ سے کہا: ”بھائی آپ نے حلوہ کمال سے لے لیا؟“
ساتھی نے جواب دیا: ”میں حلوہ ادھار پر لایا ہوں۔“

شیخ نے روٹی کا سوکھا حصہ کھایا اور حلوے کو ہاتھ تک نہ لگایا، جب

۱۔ شرح نجح البلاغہ ابن الہید ج ۱ ص ۷۔

زہد کی بھی حدود ہیں

حضرت عثمان بن مظعون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتب صحابہ میں سے تھے۔

جب انہوں نے دنیاۓ فانی کی فنا پذیری اور جتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ سے تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے گھر بار کو خیر باد کہا اور اون کا لباس پہن کر ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔

ایک دن ان کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں آئی۔ جناب رسول خدا نے اس مندرہ کو دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا:

”کیا یہ ہمارے بھائی عثمان کی زوجہ نہیں ہے؟“

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے عرض کی: ”بھی ہاں! یہ عثمان کی بیوی ہے لیکن اس کا شوہر اسے چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا ہے اور وہ وہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کافی عرصے سے اچھا لباس نہیں پہنਾ اور عطر استعمال نہیں کیا۔“

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا سن تو آپؐ ختح ناراض ہوئے اور گھر سے مسجد کی طرف اس حالت میں چلے کہ آپؐ کی ردا زمین پر گھست رہی تھی۔ آپؐ منبر پر بیٹھے اور حکم صادر کیا کہ عثمان بن مظعون کو حاضر کیا جائے۔

حکم کے مطابق عثمان بن مظعون حاضر ہوئے تو آپؐ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپؐ نے فرمایا: ”کیا تم میرے لائے ہوئے دین سے کوئی بہتر دین اور میری سنت سے بہتر کسی اور کی سنت کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟“

ایک مرتبہ چند حاسدوں نے نجف کے حاکم کے پاس شکایت کی کہ شیخ انصاری کے گھر میں حکومت کے مخالفین کا اجتماع منعقد ہوتا ہے اور ان کا گھر اسلام سے بھرا ہوا ہے۔

نجف کا حاکم ایک متصوب سنی تھا۔ اس نے ایک فوجی دستے تشکیل دیا اور انہیں بُدایت کی کہ وہ رات کے وقت ان کے گھر میں داخل ہو کر تلاشی لیں اور تھیمار برآمد کریں۔

رات کے وقت ان کے گھر فوجیوں نے چھاپے مارا اور پورا گھر چھان مارا۔ ایک کونے کی تلاشی لی گئی۔ انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ گھر میں دینی کتابوں اور استعمال شدہ لحافوں کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔

فوجی دستے کے افسر نے نجف کے حاکم کو جا کر اطلاع دی کہ لوگوں نے آپ کو غلط کما تھا۔ ہم نے شیخ انصاری کے گھر کی مکمل تلاشی لی وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ ان کے گھر میں معمولی ساز و سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو درویش صفت انسان ہیں۔

”کانہ سیدنا عمر بن الخطاب“ وہ تو حضرت عمر بن خطاب کی طرح درویشانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔

جب فوجی افسر کے ان کلمات کی اطلاع شیخ انصاری کو ملی تو مسکرا کر کہا: ”ہم تو زیادہ ترقی کر گئے اور حضرت عمرؓ کی شبیہ بن گئے۔“ (۱)

۱۔ شنیخت شیخ مرتضی انصاری ص ۷۸، ۷۹۔

میں بھی پیش آیا۔

آپ علاء بن زیاد حارثی کی عیادت کے لئے گئے تو اس نے آپ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ ترک دنیا کر کے رہبانتی کی طرف مائل ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا: ”اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔“

جب وہ آیا تو اس نے اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔

آپ نے اس سے فرمایا: ”یا عدعی نفسہ لقد استھام بک الحبیث اما رحمت اهلك و ولدك اتری اللہ احل لک الطیبات و هو یکرہ ان تأخذھا؟“ انت اهون علی اللہ من ذلك. قال يا امیر المؤمنین هذا انت من خشونة ملبسک و جبوۃ ماکلکل۔

قال ويحك انى لست كانت. ان اللہ فرض علی ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفۃ الناس يستبعی بالفقیر فقرہ۔

اے اپنی جان کے دشمن! تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکایا ہے، تمہیں اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لئے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں کھاؤ اور برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظرؤں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لئے یہ چاہے۔

اس نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! آپ کا پہناوا بھی تو مونا جھوٹا اور کھانا روکھا سو کھا ہوتا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”تم پر حیف ہے، میں تمہارے مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ خود کو مغلس و ناذار لوگوں کی سطح پر رکھیں

خدا کی قسم! اگر آج میرا بھائی موسیٰ بن عمرانؑ زندہ ہوتا تو وہ بھی میری بیرونی کرتا۔

دیکھو اور غور کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی اظفار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور میری بیویاں بھی ہیں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔“

پھر آپ نے عثمان بن مظعون کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے کھدر کے لباس سے بے نیاز ہے، اٹھو اور جا کر یہ لباس اتنا رہا اور اپنے خاندان میں جا کر رہائش اختیار کرو اور ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، ان کے لئے رزق تلاش کرو۔“

عثمان بن مظعون رضی اللہ عن فوراً اٹھے اور آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ (۱)

لائق توجہ

اس مقام پر ہم اپنے محترم قارئین کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرنا پسند کریں گے کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی داستان پڑھی اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک دنیا کی اس روشن کو پسند نہیں کیا۔

خود اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حیات طیبہ

۱۔ انوار نعمانیہ ص ۱۸۰۔ اسی کتاب کی تیسرا جلد کے میانہ روی کے باب میں بھی اسکی روایت نقل کی جا چکی ہے۔

عمل در آمد ہوتا رہا اور اب تک اس طریقے کے آثار بدھوں اور عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں۔

اسلام کا اعتدال پسند مزاج اس خانقاہی زندگی سے سازگار نہیں ہے۔ وہ روحاںی ترقی کے لئے دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھانے کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ مسلمان گھر بار چھوڑ کر اور اپنا نے جس سے علیحدہ ہو کر کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جائے اور صرف رسمی عبادت میں لگا رہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم صرف چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں ہے بلکہ جائز ذریعہ معاش سے روزی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمدردی اور تعاون و سازگاری کو بھی عبادت کا ایک اہم جزو قرار دیتا ہے۔ اگر انسان دنیوی حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دے کہ نہ الہ و عیال کی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، نہ کسب معاش کے لئے سمجھی و کوشش کو بر سر کار رکھے اور دوسروں پر سمارا کر کے ہر وقت مراقبہ میں پڑا رہے تو وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے جایے اپنی زندگی کو جیاہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو یہ چیز مطلوب ہوتی تو پھر دنیا کو بمانے اور آباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ پہلے ہی سے ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو ہمہ وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انسان کو تو قدرت نے اس دورا ہے پر کھڑا کیا ہے کہ جس میں حد و سط ہی ہدایت کا مرکز ہے اگر ذرا اس نقطہ اعتدال سے اوہر اور ہوا تو اس کے لئے گراہی ہی گراہی ہے اور حد و سط یہ ہے کہ انسان نہ دنیا کی طرف اتنا بھکل کر آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور نہ دنیا سے اتنا کنارہ کش ہو جائے کہ کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہ رکھے اور ہر چیز سے دست

تاکہ مظلوم کا حال اپنے فقر کی وجہ سے بیچ و تاب نہ کھائے۔“ (۱)

اضافہ مترجم: اس خطبہ کی شرح میں علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ نے تصوف اور متصوفہ پر گفتگو کی ہے جو کہ قارئین کی نذر کی جاتی ہے:

رہبانیت و تصوف

رہبانیت و ترکِ علاقہ کو قدیم زمانے سے طہارت نفس اور درستگی اعمال کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زہد و استفراق میں زندگی بر کرنا چاہتے تھے وہ شروں اور معمتوں سے نکل کھڑے ہوتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی غاروں میں سکونت اختیار کر کے بزم خویش اللہ سے لوگائے پڑتے رہتے۔ اگر کسی راہ گیر یا آس پاس کی بستی والے نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھالیا ورنہ جنگلی درختوں کے پھلوں اور چشمیوں کے پانی پر قناعت کر لیتے اور اس طرح زندگی کے لمحات گزار دیتے۔

اس طریقہ عبادت کی ابتداء پوں ہوئی کہ کچھ لوگ حکمرانوں کے ظلم و تشدد سے نکل آگر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بچنے کے لئے کسی سسان جنگل یا کسی پہاڑ کی کھو میں جا چھپے اور وہاں اللہ کی عبادت و پرستش میں منہمک ہو گئے۔ بعد میں اس قبری زہد و اذدواجے اختیاری صورت اختیار کر لی اور لوگ باختیار خود کھووں اور غاروں میں گوشہ نشین ہونے لگے اور یہ طریقہ راجح ہو گیا کہ جو روحاںی ترقی کا خواہش مند ہوتا وہ تمام دنیوی ہدھنوں کو توز کر کسی گوشے میں مختلف ہو جاتا۔ چنانچہ صدیوں تک اس پر

۱۔ بیج البلاغ خطبہ نمبر ۷۔ ۲۰۷

شریعت نے مثال (شادی شدہ) کی عبادت کو غیر مثال کی عبادت پر فضیلت دی ہے کیونکہ وہ عادات و اعمال میں ذہنی سکون و یکسوئی بھم پہنچا سکتا ہے۔ وہ افراد جو جامد تصور پسند کر زہد، دنیا سے بے تعلقی اور روحانی عظمت کا ڈھنڈوڑا پیٹھے رہتے ہیں وہ اسلام کی عملی راہ سے الگ اور اس کی حکیمانہ تعلیم سے ناؤشا ہیں اور صرف شیطان کے بیکانے سے خود ساختہ ساروں پر بھروسہ کر کے مثالات کے راستے پر گامزن ہیں، چنانچہ ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اس سطح پر سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ان کی آواز خدا کی آواز اور ان کا عمل خدا کا عمل ہے اور بھی شرعی حدود و قیود سے اپنے کو آزاد سمجھتے ہوئے ہر امر فتح کو اپنے لئے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحاد و بے دینی کو تصور کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے غیر شرعی اصولوں کو طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ مسلک اختیار کرنے والے صوفی کملائے جاتے ہیں۔

سب سے پہلے ابوہاشم کوفی و شامی نے یہ لقب اختیار کیا جو اموی الشب اور جبری العقیدہ تھا۔ اس لقب سے پکارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زہد و تقویٰ کی نمائش کے لئے صوف کا لباس پسند رکھا تھا بعد میں اس لقب نے عمومیت اختیار کر لی اور اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف توجہات گزہلی گئیں۔ چنانچہ ایک توجیہ یہ ہے کہ صوف کے تین حرف ہیں: ص۔ و۔ ف۔ صاد سے مراد صبر، صدق اور صفا ہے۔ واؤ سے مراد وود، ورد اور وفا ہے۔ فا سے مراد فقر اور فنا ہے۔

بردار ہو کر کسی گوشہ میں مختلف ہو جائے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے دستور حیات پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور حد اعدال میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور آسانیوں سے بہرہ اندوز ہونا چاہئے۔

ایسا نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھانا، برخا خدا پرستی کے خلاف ہو بلکہ قدرت نے ان نعمتوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔

چنانچہ جو خاصان خدا تھے وہ دنیا میں گھل مل کر رہتے سنتے اور دنیاداروں کی طرح کھاتے پیتے تھے، انہیں ویرانوں اور پرازوں کی غاروں کو اپنا مسکن بنانے اور دنیا والوں سے منہ موز کر کی دور دراز جگہ پر منزل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی بلکہ دنیا کے جھمبلوں میں پڑ کر اللہ کو یاد رکھتے تھے اور زندگی کی آسانیوں اور راحتوں کے باوجود موت کونہ بھولتے تھے۔

رہبانیت کی زندگی عموماً ایسے مفاسد کا باعث ہوتی ہے جو دنیا کے ساتھ عقیلی کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور انسان صحیح معنوں میں خرالدنیا والا آخرة کا مصدق ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب فطری خواہشات کو حلال و مشروع طریق سے پورا نہیں کیا جاتا تو انسان کا ذہن خیالات فاسدہ کا مرکز بن جاتا ہے اور اطمینان و یکسوئی سے عبادت کو سر انجمام دینے سے قاصر رہتا ہے اور کبھی ہوائے نفس اس طرح اس پر غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ تمام اخلاقی بند ہنوں کو توڑ کر نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے اور پھر ہلاکت کے ایسے گزھے میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنَا ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لئے

۳۔ طولیہ :

اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم عارفوں اور کاملوں کے اندر حلول کر جاتا ہے اور ان کا جسم اس کی فروادگاہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بظاہر بشر اور باطن خدا ہوتے ہیں۔

۲۔ واصلیہ :

یہ فرقہ اپنے کو واصل باللہ سمجھتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ احکام شرع، تکمیل نفس و تہذیب اخلاق کا ذریعہ ہیں اور جب نفس حق سے متصل ہو جاتا ہے تو پھر اسے تکمیل و تہذیب کی احتیاج نہیں رہتی۔ لہذا واصلین کے لئے عبادات و اعمال بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ "اذا حصلت الحقيقة بطلت الشریعة" جب حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت بے کار ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ جو چاہیں کریں ان پر حرف گیری نہیں کی جاسکتی۔

۵۔ زراقیہ :

یہ فرقہ نغمہ و سرود کی دھنوں اور حال و قال کی سر معیوب کو سرمایہ عبادات سمجھتا ہے اور درویشی و دریوزہ گری سے دنیا کماتا ہے اور اپنے پیشواؤں کی من گڑھت کرامتیں سن کر عوام کو مرعوب کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔

۶۔ عشاقيہ :

اس فرقہ کا نظریہ یہ ہے کہ المجازۃ قنطرۃ الحقيقة۔ عشق مجازی، عشق حقیقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہذا عشق الہی کی منزل تک پہنچنے کے لئے کسی موسوی شے عشق کیا جائے لیکن جس عشق کو یہ عشق الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ صرف اختلال دماغی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عاشق قلب و روح کی

اور اس کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صدقہ سے مشتق ہے اور صدقہ مسجد نبوی کے قریب ایک چبوتر اتحا جس پر سمجھور کی شاخوں کی چھٹ پڑی ہوئی تھی جس میں رہنے والے اصحاب صدقہ کملاتے تھے اور غربت اور بے چارگی کی وجہ سے ویں پڑے رہتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام صوفہ تھا اور یہ قبیلہ خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کے فرانص سر انجام دیتا تھا اور اسی قبیلے کی نسبت سے یہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ متعدد فرقوں میں بنا ہوا ہے لیکن جیادی فرقے صرف سات ہیں:

۱۔ وحدتیہ :

یہ فرقہ وحدۃ الوجود کا قائل ہے۔ چنانچہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا ہے۔ یہاں تک کہ ہر بخش و تپاک چیز کو بھی یہ اسی منزل الوہیت پر ٹھہراتے ہیں اور اللہ کو دریا سے اڑا مخلوقات کو اس میں اٹھنے والی لردوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دریا کی لر میں دریا کے علاوہ کوئی جدالگانہ وجود نہیں رکھتیں بلکہ ان کا وجود بعینہ دریا کا وجود ہے جو کبھی ابھرتی ہیں اور کبھی دریا کے اندر سُٹ جاتی ہیں۔ لہذا کسی چیز کو اس کی ہستی سے الگ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

۲۔ اتحادیہ :

اس فرقہ کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ اس سے متحد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کو آگ سے اور اپنے کو اس لوہے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو آگ میں پڑا رہنے کی وجہ سے اس کی صورت و خاصیت پیدا کر پکا ہو۔

رابعہ بصری کی کرامت

رابعہ بصری کے متعلق شیخ عطار تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۵۵ پر رقم طراز ہیں:
ایک گروہ کا بیان ہے کہ جب رابعہ کے مال باپ جہان فانی سے
رخصت ہوئے تو رابعہ نے ایک مخفی کے ہاں پرورش پائی۔ آخر میں حسن
بصری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (۱) اور ایک دیرانے میں طویل عرصے تک بیٹھ کر
ذکر حق کرتی رہیں۔

پھر دیرانے سے ایک گرجا میں منتقل ہو گئیں اور اس گرجا میں رہ کر
اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔

پھر انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ حج کے لئے پہل وہ ایک آبادی میں
آئیں، یہاں سے انہوں نے ایک گدھا خریدا اور قافلہ کے ساتھ چل پڑیں۔
راتستے میں ان کا گدھا مر گیا۔ اہل قافلہ نے انہیں پیش کی کہ ہم آپ کا سامان
اخلاں کے لیکن انہوں نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرایا اور کہا: ”میں نے
تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا تھا۔“

قافلہ انہیں تباہ چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے بارگاہ احادیث میں عرض
کی: ”خدیل! بادشاہ، ایک مسافر عورت کے ساتھ یہی سلوک روک رکھتے ہیں؟ تو
نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور راستے میں میرے گدھے کو مار دیا اور
مجھے بیلانا میں تن تباہ گھر اکر دیا۔“

۱۔ حسن بصری وہی شخص ہیں جن کے متعلق مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
نے فرمایا تھا: ”ہر امت میں ایک نہ ایک سامری ہوتا ہے اور حسن بصری اس امت کا سامری
ہے۔“ احتجاج طبری۔

پوری توجہ کے ساتھ ایک فرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس تک رسائی ہی
اس کی منزل آخر ہوتی ہے۔ یہ عشق فتنہ و غور کی راہ پر تو لاگا سکتا ہے مگر عشق
حقیقی کی منزل سے اسے کوئی لاگا نہیں ہوتا۔

عشق مجاز چون ہے حقیقت نظر کنی
دیو است و دیورانہ یود پائے رہبری
۷۔ تلقیہ :

اس فرقے کے نزدیک علوم دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا
قطعہ حرام ہے بلکہ جو مرتبہ علمی، ستر (۷۰) برس تک پڑھنے سے حاصل نہیں
ہوتا وہ ایک ساعت میں مرشد کے تصرف روحانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔
علمائے شیعہ کے نزدیک یہ تمام فرقے گمراہ اور اسلام سے خارج ہیں چنانچہ اس
سلسلے میں ائمہ اطہار کے پیغمبر ارشادات موجود ہیں اور اس خطبہ میں بھی
امیر المؤمنین علیہ السلام نے عاصم ان زیاد کے قطع علاقیں دنیا کو شیطانی و سوسہ کا
نتیجہ قرار دیا ہے اور اسے اس راہ پر چلنے سے بشدت منع کیا ہے۔ (۱)

خرافاتِ صوفیہ

اس باب کا اختتام ہم خرافاتِ صوفیہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ قارئین
کرام کو کچھ تفہیم طبع حاصل ہو اور اس کے ساتھ سامان عبرت بھی میر آئے
اور انہیں ہوتی معلوم ہو سکے کہ زہد و پارسائی کے یہ دعویدار کتنے بڑے مکار اور
فرمی ہیں اور انہوں نے اپنی کرامات کے لئے کیا کیا جھوٹ تراشے ہیں۔

۱۔ سیم البانہ خطبہ نمبر ۷۰۷۔

ایک عورت کے استقبال کے لئے گیا ہے۔“

یہ سن کر ابراہیم کو غصہ آیا اور کہا: ”یہ عورت کون ہے؟“

ابراہیم اور ہم دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا کہ کعبہ رابعہ کا طواف کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کعبہ اپنے اصلی مقام پر آگیا۔

ابراہیم اور ہم نے رابعہ سے کہا: ”تم نے یہ کیا شور برپا کیا ہوا ہے؟“

رابعہ نے جواب دیا: ”میں نے جہاں میں کوئی شور برپا نہیں کیا، شور تو نے برپا کیا ہوا ہے کہ چودہ سال سفر کر کے کعبہ آیا ہے۔“

ابراہیم اور ہم نے کہا: ”بھی ہاں مجھے چودہ سال اس لئے لگے کہ میں قدم قدم پر سجدہ کرتا ہوا آیا ہوں۔“

رابعہ نے کہا: ”ابراہیم! میرے اور تیرے درمیان بس یہ فرق ہے تو نے یہ راستہ نماز میں طے کیا اور میں نے یہ راستہ نیاز میں طے کیا۔“

پھر رابعہ بیت اللہ کی طرف آئیں اور مناسک حج ادا کئے اور مقام عرفات میں زار و زار گریہ کر کے کہا: ”خدیلی! تو نے حج کے لئے عظیم ثواب مقرر کیا ہے اور مصیبت پر بھلی تو نے بہت سے اجر کا وعدہ کیا ہے، اگر تو نے میرا حج قبول کر لیا ہے تو مجھے اس کا اجر بتا، اگر میرا حج قبول نہیں کیا ہے تو یہ میرے لئے مصیبت ہے اور تو نے مصیبت پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس صورت میں مجھے میری مصیبت کا اجر بتا۔“

پھر ہلی بصرہ چلی گئیں اور وہاں پورا سال مصروف عبادت رہیں۔ ایک سال بعد انہوں نے کماکہ پچھلے سال کعبہ میرے استقبال کو آیا تھا اس سال میں اس کے استقبال کے لئے جاؤں گی۔

بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ گدھے کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔

اور وہ زندہ ہو گیا۔ رابعہ بصری نے اس پر اپنا سامان لادا اور چل پڑیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں اسی گدھے کو ایک سال بعد منڈی میں فروخت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔

جب رابعہ مکہ کے قریب پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ ان کے استقبال کے لئے خود چلا آتا ہے۔ (نحوذ بالله)

ہلی رابعہ نے کعبہ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو کہا: ”مجھے صاحب خانہ (خدا) کی ضرورت ہے میں اس کے گھر کو لے کر بھلا کیا کروں گی۔“

(تجھب ہے کہ آج تک کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لئے آیا ہو، مگر جو کعبہ آج تک کسی نبی و لام کے استقبال کے لئے نہیں آیا تھا وہ رابعہ بصری کے استقبال کے لئے چل پڑا۔)

اسی سال ابراہیم اور ہم بھی ایک عجیب رنگ سے حج کرنے لگے ہوئے تھے، ابراہیم اور ہم نے مکہ کا سفر چودہ برس میں طے کیا تھا، وہ قدم قدم پر سجدہ کرتے ہوئے آئے تھے اور یوں چودہ برس کے طویل سفر کے بعد وہ مکہ میں پہنچے تو دیکھا کہ کعبہ اپنے مقام پر موجود نہ تھا۔

ابراہیم نے چیخ کر کہا: ”یہ کیا حادثہ ہو گیا ہے یا میری پینانی میں کچھ خلل آگیا ہے؟ آج مجھے کعبہ اپنے مقام پر نظر نہیں آتا۔“

ہاتھ نبی کی آواز آئی: ”تیری آنکھوں میں کوئی خلل نہیں ہے، کعبہ

اس وقت ہاتھ نے ندادی : ”ان کا پہلا مقام تو یہ ہے۔ تو نے سات سال تک پہلو کے مل لیٹ کر سفر کیا تاکہ ہمارے راہ کے ایک پھر کی زیارت کر سکے لیکن جب تو اس سُنگ راہ کے قریب آئی تو تجھے اس بنا پاکی کی وجہ سے دور کر دیا گیا۔“

دو صوفیوں کا مقابلہ

ایک دن ربیعہ کا گزر حسن بصری کے مکان کے قریب سے ہوا۔ حسن بصری نے دریچہ سے سر نکالا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ اس میں سے چند آنسو ربیعہ کے کپڑوں پر پڑے۔ پسلے تو ربیعہ سمجھیں کہ بادش کے قطرے ہیں لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ قطرے حسن بصری کے قطراتِ اشک میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے حسن بصری کی طرف منہ کر کے کہا : ”محترم استاد! یہ آنسو ر عورت نفس کا ذریعہ ہیں۔ ان آنسوؤں کو اپنے دماغ کے نہایت خانے میں محفوظ رکھو اور اس سے ایک دریا بناو اور اس دریا میں تیر کر اپنے خدا کو ٹلاش کرو۔“

حسن بصری کو ربیعہ کے یہ جملے گزارے۔

ایک دن حسن بصری دریا کے قرب پیر کر رہے تھے۔ وہاں سے ربیعہ کا گزر ہوا تو حسن بصری نے دریا پر مصلیٰ پھیلایا اور ربیعہ سے کہا : ”اوہ اس مصلیٰ پر نہماز پڑھیں۔“

ربیعہ نے کہا : ”استاد محترم! دین کے بازار میں مردان آخرت کو ایسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہئے جس کا اظہار دوسروں سے مشکل ہو۔“

شیخ ابو علی فارمدی کہتے ہیں کہ میں میں ربیعہ نے حج کے لئے پہلو کے مل لیٹ کر سفر کرنے شروع کیا۔ سات سال سفر میں طے ہوئے، آخر کار عرفات میں پہنچ گئیں۔

اس وقت انہیں یہ ندا سنائی دی : ”ربیعہ کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں ہم سے مجت ہے تو ہم تجلی کئے دیتے ہیں۔“

ربیعہ نے کہا : ”نہیں خدیا! میرے پاس اتنا حوصلہ و سکت ہی نہیں ہے کہ میں تیری تجلی کی تاب لاسکوں، مجھے تیری تجلی کی نہیں، مجھے تو فقر کے ایک نقطہ کی ضرورت ہے۔“

ندا آئی : ”ربیعہ! فقر تو ہمارا ایک قدر ہے اور فقر ایک مسلسل خیک سالی ہے جہاں سے ہمارے عشقان کا گزر ہوتا ہے اور جب وہ ہم سے صرف ایک بال بر لبر فاصلے پر آجائتے ہیں تو یہ کیا کہ ان کا وصل فراق میں بدل جاتا ہے، ابھی تیرے سامنے ستر جاہب ہیں اور جب تک تو ان ستر جاہبوں کو طے نہ کرے اور ہماری راہ میں قدم نہ رکھے اس وقت تک تجھ سے فقر کی گفتگو نہیں کی جاسکتی لیکن ذرا اوپر نگاہ کرو۔“

جیسے ہی ربیعہ نے اوپر نظر کی تو اسے ہوا میں خون کا ایک خاٹھیں مارتا ہوا دریا نظر آیا اور ندا آئی : ”ربیعہ! یہ خون ہمارے عشقان کی آنکھوں سے پکا ہوا ہے یہ سب ہمارے طالب وصال تھے اور جب یہ پہلی منزل پر پہنچے تو اسی دریائے خون میں غرق ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔“

ربیعہ نے کہا : ”خدیا! مجھے بھی ان جیسی کوئی علامت درکار ہے۔“

یہ کہنے کی دیر تھی کہ فوراً انہیں خون جیض آنا شروع ہو گیا۔

سفید جھوٹ

اب راہیم بن ادہم کتے ہیں کہ میں حج کے لئے جا رہا تھا۔ جب میں ذاتِ العرق پنچا تو میں نے ستر احرام پوش دیکھے جو کہ مر چکے تھے اور ان کے تاک اور منہ سے خون بیہد رہا تھا، ان میں سے ایک میں رمق جان باقی تھی، میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟

اس نے کہا: ”اوہم کے پیٹ! علیک بالماء والمحراب۔ تو وضو کر اور نمازیں پڑھ۔ حضرت حق سے دور نہ ہونا، مجبور قرار پاؤ گے اور نزدیک ہونے کی کوشش نہ کرنا، تکلیف میں بیٹلا ہو جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بساطِ سلطین پر گستاخی کر بیٹھو اور ان سے دوستی نہ کرنا جو حاجیوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمان کافرانِ روم کے ساتھ کرتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔

تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ ہم لوگ صوفی ہیں اور ہم نے اس بیان میں قدم توکل رکھا اور یہ فیصلہ کر کے روانہ ہوئے تھے کہ اس پورے سفر میں کسی سے گفتگو نہیں کریں گے اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں ڈریں گے اور ہماری تمام حرکت و سکون رضاۓ اللہ کے لئے ہوگی اور کسی طرف التفات نہیں کریں گے۔

جب ہم نے بیان کا کچھ حصہ طے کیا اور میقات پر پہنچ تو حضرت خضر، ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہم نے خوش ہو کر انہیں سلام کا جواب دیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ الحمد للہ ہمارے سفر کا آغاز بیڑ ہو گیا، خضر، ہمارے استقبال کے لئے آئے۔

پھر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا میں پھینکا، قدرت خدا سے وہ مصلی ہوا میں مجھ گیا، رابعہ پرواز کر کے مصلی پر جا گھری ہوئیں اور حسن بصری سے کہا: ”آؤ یہاں نماز پڑھیں۔“

حسن بصری کو یہ مقام حاصل نہ تھا، لہذا حسن بصری نے خاموشی میں ہی عافیت محسوس کی۔

پھر رابعہ نے حسن بصری کی تالیف قلب کے لئے کہا: ”استاد محترم! جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ چند لاکٹ تجرب نہیں ہے، یہ کام تو دریا کی مچھلیاں بھی کرتی ہیں اور جو کچھ میں نے کیا ہے یہ بھی کوئی تجرب خیز نہیں ہے کیونکہ یہ کام تو کم بھی بھی کرتی ہے۔ اس سے زیادہ لاکٹ توجہ امری یہ ہے کہ کارِ حق میں مصروف رہو۔“ (۱)

قارئین کرام!

خدارا انصاف کریں، کیا اس طرح کی وضعی و من گھڑت روایات سے کسی نہ ہب کی تائید ممکن ہے، آج جب کہ تعلیم کا دور دورہ ہے اور انسان آسمانوں کرات پر کمند ڈال چکا ہے تو کیا آج کا روشن خیال جوان اس طرح کی خرافات پر یقین کر سکتا ہے؟

دعا ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کو ان خرافات سے محفوظ رکھے۔

آمین ثم آمین۔

۱۔ تذكرة الاولیاء ص ۷۵۔

فروخت کر کے میرا علاج کر لیا۔ میں پھر بھی صحیاب نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنا گدھا بھی فروخت کر کے میرا علاج معالج کر لیا۔ جب میں صحیاب ہوا تو میں نے پوچھا: ”گدھا کمال ہے؟“

انہوں نے کہا: ”میں نے پچ ڈالا ہے۔“

میں نے کہا: ”اب ہم کس چیز پر سوار ہوں گے؟“
اب رائیم نے کہا: ”تم مجھ پر سواری کرنا۔“

الغرض تین منزلوں تک وہ مجھے اپنی گردن پر اٹھا کر سفر کرتے رہے۔

عطایاں ملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابرائیم کے پاس سفر خرچ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا اور مسلسل پندرہ دن تک ریت کھاتے رہے۔

سفیان ثوری کے اسلام کا انجام

سفیان ثوری جوانی میں ہی کبڑا ہو گیا تھا۔ کسی نے اس سے کہا: ”تو مسلمانوں کا رہنماء ہے اور ایک مسلم رہنمائی کر ریوں خمیدہ نہیں ہونی چاہئے۔“ سفیان نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، جب سوال کرنے والے کا اصرار بڑھا تو سفیان نے کہا: ”بات یہ ہے کہ میرا ایک استاد تھا جس سے میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں اس وقت اس کے سر برہانے پیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا اور کہا کہ دیکھ رہے ہو میرے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے؟ میں پچاس برس سے

اسی وقت نداہندہ ہوئی کہ اے جھوٹے لوگو! تم نے اپنے قول پر عمل نہیں کیا، اب تم نے میرے ایک بندے کو دیکھا تو تم نے مجھے بھلا دیا اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور جب تک میں تمہیں غارت نہ کروں اور غیرت کی تنقیب سے تمہارا خون نہ بہاؤں اس وقت تک تم سے صلح نہیں کروں گا۔

تمہیں یہ جو افراد مرے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب کے سب سختگان ناز ہیں۔

اے ابراہیم! اگر تمہیں جرأت ہے تو اس وادی میں قدم رکھو ورنہ دور ہو جاؤ۔“

اب رائیم نے کہا: ”اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی افراد تو تنقیب ناز سے قتل ہو گئے لیکن تم ابھی تک زندہ ہو؟“

اس نے جواب دیا: ”مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بچتے ہیں اور تو ابھی تک خام ہے، تو ابھی کچھ دیر صبر کر یہاں تک کہ تو بچتے ہو جائے اور جب تو بچتے ہو جائے گا تو تو ابھی ان کے پیچھے روانہ ہو جائے گا۔“

اس نے یہ الفاظ کے اور جان دے دی۔ (۱)

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ابراہیم کا زاد راہ ختم ہو گیا اور وہ مسلسل چالیس دن تک ریت کھا کر گزارہ کرتے رہے لیکن کسی کو اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کیا۔

سلیمان بن ابراہیم کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں ابراہیم بن ادہم کا سفر تھا۔ دوران سفر میں یہمار ہو گیا۔ ابراہیم کے پاس جو بھی اتنا شد تھا اس نے

۱۔ تذكرة الاولیاء ص ۶۷۔

کی تو سفیان ثوری نے کہا: ”قیامت کے دن تیری یہ نماز ایک نجس گیند کی طرح تیرے منہ پر ماری جائے گی۔“

خلیفہ نے کہا: ”آہتہ سے بات کرو۔“

سفیان نے کہا: ”اگر میں حق بات پر پردہ ڈالوں تو خدا کرے کہ میرا پیشاب خون بن جائے۔“

خلیفہ کو دل ہی دل میں سفیان پر سخت غصہ آیا اور وہ مسجد سے انٹھ کر گھر چلا گیا اور اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ سولی تیار کی جائے۔ جب سولی تیار ہو گئی تو اس نے کہا: ”سفیان کو اس سولی پر لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو خلیفہ پر جسارت کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔“

اس وقت سفیان دو بزرگ صوفیوں کے قریب لیٹئے ہوئے تھے، ان دونیں سفیان میں سے ایک سفیان بن عینیہ تھے، سفیان کے دوستوں کو خلیفہ کے حکم کا پتا چل چکا تھا، وہ سفیان ثوری کے لئے بڑے پریشان تھے، دونوں بزرگوں نے سفیان کو سویا ہوا سمجھ کر آپس میں بات کی کہ ہمیں سفیان کو عتاب شاہی کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہئے۔

سفیان جو کہ آنکھیں بد کئے ہوئے تھے درحقیقت بیدار تھے۔ فوراً انہیں

بیٹھنے اور کہا: ”کیا معاملہ ہے؟“

بزرگوں نے بتایا کہ تمہارے لئے دار تیار ہو چکی ہے اور خلیفہ تمہیں اس پر لٹکانا چاہتا ہے۔

جیسے ہی سفیان نے یہ سن تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بارگاہ

۱۔ تذكرة الاولیاء عن اصل ۱۵۸۔

لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں اور اس وقت مجھے راندہ درگاہ بتایا جا رہا ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہمارے لاائق نہیں ہے۔“

سفیان نے کہا: ”میں نے تین استادوں کی خدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ ان میں سے ایک مرنے کے وقت یہودی ہو گیا تھا اور اس کی موت مذہب یہود پر واقع ہوئی تھی۔ میرا دوسرا استاد مجوہ ہو گیا تھا اور تیسرا استاد نفرانی ہو کر مر۔ اسی خوف کی وجہ سے جوانی میں ہی میری کمر خم ہو گئی۔“

وان دگریک کردہ صوفی نام خود

کفر ہا بنہادہ اندر دام خود

ہیج دانی چیست صوفی مشربی

ملحدی ، بنگی ، مباحتی ، مذہبی

علامہ نراثی مرحوم

جن لوگوں نے اپنا نام صوفی رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے دام میں کئی کفر چھپائے ہوئے ہیں۔

صوفی مشرب کو جانتے ہو کہ کیا ہے، صوفیت زرالخاد، نش بازی اور لباحثت پسندی سے عبارت ہے۔

 جھوٹ میں ہڈی ہوتی تو گلے میں ضرور اٹکتی

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عبادی خلیفہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ہی سفیان ثوری تحقیبات میں مصروف تھا۔

نماز کے دوران خلیفہ اپنی داڑھی سے کھیلتا رہا۔ جب اس نے نماز ختم

ہوا ہے۔“

قارئین کرام! خدا لگتی کہتے اگر کوئی بھی عبادی خلیفہ زمین میں دھننا ہوتا تو یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عطار کے علاوہ کسی نے آج تک بیان نہیں کیا۔ اسی لئے ہم نے اس داستان کے آغاز میں لکھا ہے:

”اگر جھوٹ میں ہڈی ہوتی تو گلے میں ضرور اٹکتی“

بَارَكَ اللَّهُ، أَيْسِيْ كَهَانِيْ؟

شیخ عطار اپنی کتاب تذكرة الاولیاء کے حصہ اول صفحہ ۲۰۰ پر لکھتے ہیں:

اکابر صوفیہ میں سے ایک بزرگ میان کرتے ہیں کہ میں روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ شیطان یک لخت زمین پر گر۔

میں نے اس سے کہا: ”لھین! تجھے کیا ہوا؟“

شیطان نے کہا: ”شیخ محمد اسلم طوسی اپنے گھر میں بیٹھے وضو کر رہے تھے کہ دوران وضو وہ کھانے، ان کی کھانی کی آواز سن کر میں نیچے اگر گرا شکر ہے کہ میں مرنے سے بچ گیا۔“

علاوہ ازیں اسی کتاب کے ص ۲۵۹ پر شیخ عطار لکھتے ہیں: شاه شجاع کرمائی مسلسل چالیس برس تک جاتے رہے اور اس تمام عرصے میں وہ ایک لمحے کے لئے نہ سوئے اور اپنی آنکھوں میں نمک ڈالتے تھے اور ان کی آنکھیں خون کے پیالے کی مانند سرخ ہو گئی تھیں۔

احدیت میں عرض کی: ”خدیلای! اس خالم کو ساتھیوں سمیت ابھی ابھی پکڑ اور انہیں مملت نہ دے۔“

بس چند لمحات گزرے کہ خلیفہ کے محل سے گریہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں، معلوم کرنے پر پتا چلا کہ زمین پھٹ گئی اور خلیفہ اپنے ساتھیوں سمیت قارون کی طرح زمین میں دھنس گیا۔

یہ منظر دیکھ کر بورگوں نے کناکہ خدا نے بہت جلد سفیان ثوری کی دعا کو قبول کر لیا۔ (۱)

سَفِيَانُ ثُورِيُّ كَيْ شَخْصِيَتُ

واضح رہے کہ یہ سفیان ثوری وہی ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھا تو ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے آپ کو یہ لباس زیب نہیں دیتا۔

امام علیہ السلام نے وہ جبہ ہٹا کر اندر ونی جبہ دکھلایا جو کہ انتہائی موٹا جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”میں نے لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ اوپر والا لباس پہنا ہے اور اپنے نفس کے لئے اندر میں نے موٹا جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔“

پھر آپ نے سفیان ثوری کے اوپر والا جبہ ہٹایا تو اس نے اندر سے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا: ”تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے درویشانہ لباس پہن رکھا ہے جبکہ اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لئے تم نے ریشم کا لباس پہنا

چالیس سال بعد ان کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی سوئے انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔

انہوں نے کہا: ”خدیا! میں تو عالم بیداری میں تجھے تلاش کرتا رہا اور تو مجھے خواب میں ملا۔“

خداوند عالم نے فرمایا: ”اگر تمہاری وہ بیداری نہ ہوتی تو آج خواب میں میرا دیدار نہ کر سکتے تھے۔“

اس کے بعد شاہ شجاع کرمائی کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے فوراً سرہنہ رکھ کر سو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس نیند پر کائنات کی بیداری قربان کر سکتا ہوں۔

قارئین کرام! آپ نے دونوں داستانیں پڑھیں، ہم پورے یقین سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں داستانیں جھوٹی ہیں اور فارسی کی یہ ضرب المش ان داستانوں پر صادق آتی ہے: ”پیران خود نہ پرند، مریدان می پر انند۔ (پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑایا کرتے ہیں۔)“

کیا خداوند عالم قابل دید ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا دیدار موئی علیہ السلام کرنے گئے تو دیدار نصیب نہ ہوا۔ جس کے ایک جلوے کی تاب موئی علیہ السلام نہ لاسکے، طور سینا جس کی جگلی برداشت نہ کر سکا، مگر شاہ شجاع نے اسے دیکھ لیا۔

ذعلب بیانی نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا: ”آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟“

تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: ”کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا

۱۔ تجسس باللغہ خطبہ نمبر ۷۷۔ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔

ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟“
اس نے کہا: ”آپ کیوں کر دیکھتے ہیں؟“
آپ نے فرمایا: ”لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدر کہ القلوب بحقائق الایمان ، قریب من الاشياء غير ملامس بعيد منها غير مباین متکلم لا بروبة ، مرید لا بهمة ، صانع لا بجراحة ، لطیف لا یوصف بالخفاء ، کبیر لا یوصف بالجفاء ، بصیر لا یوصف بالحسنة ، رحیم لا یوصف بالبرقة ، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافة . آنکھیں اسے کھلمن کھلانیں دیکھتیں بلکہ دل ایمانی حقیقوں سے اسے پہچانتے ہیں، وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اقصال کے طور پر نہیں، وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں، وہ غور و فکر کے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء کی مدد کے بنا نے والا ہے، وہ لطیف ہے، لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ وہ بزرگ و برتر ہے مگر تند خوئی اور بد خلقی کی صفت اس میں نہیں، وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جاسکتا، وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو زرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، چرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزائ وہر اسال ہیں۔“ (۱)

اممہ اطہار کے دوستوں کو نعمت والایت کی قدر کرنی چاہئے اور آل محمد کا احسان سمجھنا چاہئے جنہوں نے ہمیں توحید کے حقائق سے آگاہ کیا اور نہ ہم بھی صوفیہ کی طرح سے روپیت خداوندی کے قائل ہوتے اور ہم دل پر جبرا کر کے

ایک سے بڑھ کر ایک

ڈاکٹر قاسم غنی تاریخ تصوف کے صفحہ ۳۰۳ پر شیخ عبداللہ تروغندی

کے حالات کے تحت لکھتے ہیں :

ایک مرتبہ شیخ عبداللہ تروغندی اپنے دوستوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ منصور حلاج کشمیر سے آ رہا تھا، اس نے سیاہ قبا پہنچی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں دو سیاہ کتے تھے۔

شیخ عبداللہ نے کشف کے ذریعے سے منصور کی آمد کو معلوم کر لیا اور مریدوں سے کہا: ”ابھی ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے جس نے سیاہ قبا پہنچی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کتے ہیں، آنے والا عظیم شخصیت کا مالک ہے، تم جا کر اس کا استقبال کرو اور ادب سے انہیں یہاں لے آؤ۔“

مرید باہر نکلے تو واقعی منصور آ رہے تھے۔ چنانچہ م ا انہیں ادب و احترام سے اپنے شیخ کے پاس لے آئے۔ شیخ نے انھوں کران کا استقبال کیا اور ان کے لئے اپنی مند خالی کر دی۔ چنانچہ منصور کتوں کو ساتھ لے کر شیخ کی مند پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے اور انہوں نے کتوں کو بھی اپنے ساتھ بھایا اور انہیں بھی کھانا کھلایا۔

مرید خاموش ہو کر سارا منتظر دیکھتے رہے اور دل میں بیچ و تاب کھاتے رہے، مگر مہمان کے سامنے خاموش رہے۔

کچھ دیر بعد منصور چلے گئے تو مریدوں نے شیخ سے شکوہ کیا کہ یہ کیسا مہمان تھا جو کتوں کو بھی ہمارے دسترخوان پر لے آیا اور ہمارے دسترخوان کو بخس کیا۔

چند مرید صوفیوں کی خرافات نقل کرتے ہیں تاکہ دوستان آل محمدؐ کو اندازہ ہو سکے کہ الہیت طاہریؐ نے انہیں کتاب صاف و شفاف دین عطا کیا ہے۔

چھ صوفی کی دعا کے انتظار میں رحم ماوریں نکارہا

ایک دن مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا: ”حضرت! آپ دعا کریں میری بیوی چار سال سے حاملہ ہے مگر ابھی تک چھ پیدا نہیں ہوں۔ آج میری بیوی بہت بی بے تاب ہے، آپ دعا کریں کہ خیریت سے زچلی کا مرحلہ طے ہو جائے۔“

مالک جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے قرآن بد کیا اور ناراض ہو کر کہا: ”ان لوگوں نے کیا ہمیں نبی سمجھ رکھا ہے؟“

پھر انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ بلد کئے اور کہا: ”بار الہی! تو بہتر جانتا ہے کہ اس عورت کے شکم میں کیا ہے؟ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اسے پیٹا ہونا چاہئے۔“

حاضرین نے بھی ہاتھ اٹھا کر آئیں کہی۔ اسی اثناء میں ایک چھ دوڑتا ہوا آیا اور اس شخص سے کہا کہ آپ فوراً اگر آئیں۔

وہ شخص گھر گیا اور تھوڑی دیر بعد اپنے کندھے پر ایک لڑکے کو اٹھائے ہوئے آیا جس کے دانت پورے نکلے ہوئے تھے مگر اس کی ناف ابھی تک نہیں کاٹی گئی تھی۔ (۱)

۱۔ المستغفرين بالله۔ ابن بشکوال۔

نماز متصوفہ

قرآن مجید میں مشرکین کی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ما كان صلاتهم عندالبيت الا مكاء و تصدية. (بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیئوں اور تالیوں ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔)"

اب نماز متصوفہ کا کچھ حال بھی پڑھ لیں۔

ڈاکٹر قاسم غنی افکار و احوال حافظ کی حدث میں تحریر کرتے ہیں کہ شیخ ابوسعید ابوالخریر حفظہ اللہ علیہ السلام میں شریک تھے۔ ان پر وجود حال کی کیفیت طاری تھی۔ شیخ اور ان کے مرید اچھل اچھل کر تالیاں جا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دی اور مسجد کے امام نے آگر کہا: "شیخ! اذان ہو چکی ہے اب آپ آگر نماز پڑھیں۔"

شیخ نے کہا: "تم جاؤ، ہم تو پہلے سے ہی نماز میں مصروف ہیں اور شیخ بدستور وجود سرور میں مصروف رہے۔"

حقیقت تصوف

ڈاکٹر قاسم غنی تاریخ تصوف کے صفحہ ۳ پر لکھتے ہیں ہو امیہ کے تسلط کے بعد دنیا پرستی تقویٰ پر غالب آگئی اور ہر شخص مادیت کے جال میں پھنس گیا۔ اس محدودے چند افراد تقویٰ و زہد پر قائم رہے۔ معاشرے میں اکثریت بے عمل لوگوں کی تھی، اسی نے جو افراد نماز و روزہ کے پابند ہوتے انہیں "زُھَاد و عُبَاد" کے نام سے پکارا جاتا تھا اور پھر جیسے جیسے امت اسلامیہ

شیخ عبداللہ نے کہا: "ناوانو! تم حقیقت سے بے خبر ہو۔ تم نے جو سیاہ رنگ کے کتے دیکھے یہ حقیقت کے نہیں تھے۔ یہ دراصل منصور کا نفس تھا جو اس کے اندر سے نکل گیا اور اب اس کی باگ ڈور خود شیخ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پر ہمارا نفس حکومت کرتا ہے اور شیخ نفس کے شنبجے سے نجات حاصل کرچکے ہیں۔"

اسی کتاب کے صفحہ ۳۰۲ پر محمد بن علیان نسوی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جینید بغدادی کے اصحاب میں سے تھے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائے حال میں میں نفس کی چیزہ دستیوں سے واقف ہو گیا تھا اور نفس کے جملے کے مقامات سے بھی میں نے واقعیت حاصل کر لی تھی۔ میرا دل نفس سے محنت کراہت کرتا تھا۔

ایک دن مجھے قسی آئی اور لومڑی کے چھوٹے پیچے کی طرح کی ایک چیز میرے منہ سے خارج ہوئی۔

اللہ نے مجھے اس کے متعلق فہم عطا کی اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرا نفس ہے، میں نے اسے لاتیں مارنا شروع کیں، عجیب بات یہ تھی کہ میں اسے جتنا لاتیں مارتا تھا وہ اتنا ہی بڑا اور طاقتور ہوتا جاتا تھا، میں نے اس سے کہا: "بد نصیب! ہر چیز زخم کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے لیکن تو الہا طاقتور ہوتا جاتا ہے۔"

نفس نے جواب دیا: "جب تک توفیق ایزدی کسی کے شامل حال نہ ہو اس وقت تک میں کسی کے مارنے سے مر نہیں سکتا۔"

ایک مرید نے کہا: "آپ یہ کیا کہ رہے ہیں؟"
جنید نے کہا: "کتے کی غراہٹ بھری آواز قرآنی کا مظہر ہے۔ جسے
ہی میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے درمیان میں سے کتے کو نکال دیا، اسی لئے
میں نے بلیک کہا۔" (نحوہ باللہ)

شیخ عطار بایزید بسطامی کے متعلق تحریر کرتے ہیں:
بایزید بسطامی نے حج کا ارادہ کیا اور گھر سے لٹکے کچھ دور جا کر پھر واپس
آگئے۔ لوگوں نے کہا: "یا حضرت! آپ نے یہ کیا کیا حج کے بغیر واپس چلے
آئے؟"

شیخ نے کہا: "اصل بات یہ ہے کہ میں حج کے لئے جارہا تھا کہ راستے
میں ایک زنگی تکوار لئے کھڑا تھا اور اس نے تکوار لہرا کر کہا کہ اگر واپس چلے جاؤ
تو بہتر ورنہ تیرا سر بدن سے جدا کروں گا۔" ترکت اللہ بیسطام وقصدت
البیت الحرام" (اللہ کو بسطام میں چھوڑ کیا اور بیت اللہ الحرام کا قصد کر لیا۔)"
کتاب کے اسی صفحہ پر مزید لکھا ہے کہ ایک دن بایزید بسطامی کی زبان
سے یہ الفاظ جاری ہوئے: "سبحانی اما اعظم شانی۔ (میں ہر عیب سے پاک
و منزہ ہوں میری شان کتنی عظیم ہے۔)"

شیخ سری سقطی کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سری
سقطی ایک ولی کو ملنے کیلئے گئے۔ جب سری سقطی وہاں پہنچے تو اسے سلام کیا۔
اس ولی نے پوچھا: "تو کون ہے؟" سری سقطی نے کہا: "وہ۔"
اس نے پوچھا: "کیا کرتے ہو؟" سری سقطی نے کہا: "وہ۔"
اس نے کہا: "کیا کھاتے ہو؟" سری سقطی نے کہا: "وہ۔"

فرقوں میں تقسیم ہوتی گئی ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ "زہاد و عباد" افراد
صرف ان کے فرقے میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے فرقے میں نیک سرشت
افراد موجود نہیں ہیں۔

اسی دوران ایک مخصوص فرقہ پیدا ہوا جنہیں "صوفیہ یا متصوفہ" کا
نام دیا گیا اور سن دو سو ہجری تک یہ نام مشور ہو چکا تھا۔

ہو امیرہ اور ہو عباس کے حکمرانوں نے ائمہ الجیت پر بے پناہ مظالم
ڈھانے اور انہیں نگہ و تاریک قید خانوں میں صرف اس لئے قید رکھا گیا کہ
عوام الناس ان سے متعارف نہ ہوں اور آل محمدؐ کی روحانیت کا خلا پر کرنے کے
لئے حکومتوں نے ہمیشہ فرقہ صوفیہ کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کلمات کے
جمھوٹے واقعات تیار کئے گئے تاکہ عوام الناس آل محمدؐ سے کٹ کر ان خود ساختہ
افراد کے گرویدہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک منظم سازش کے تحت شفیق ملخی، سفیان
ثوری اور جنید بغدادی کے روحانی تصرفات کا چرچا کیا گیا۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوفیہ کے لئے جو پہلی خانقاہ تعمیر ہوئی
وہ رملہ شام میں ایک عیسائی نے تعمیر کرائی تھی۔

صوفیہ کی اسلام دشمن تعلیمات

شیخ عطار اپنی کتاب تذکرہ کے حصہ اول کے صفحہ ۱۳ پر لکھتے ہیں:
جنید بغدادی اپنے مریدوں کے ہمراہ رات کے وقت کمیں جا رہے تھے
کہ ایک کتا انہیں دیکھ کر بھوکنے لگا۔ جنید نے جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو کہا:
"لبیک لبیک۔"

بُونطی اور اسماعیل بن بزیع بیان کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا:
”جس کے سامنے صوفیہ کا ذکر ہو اور وہ اپنی زبان اور دل سے ان کی مخالفت نہ
کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو ان کی مخالفت کرے تو گویا اس شخص
نے جتاب رسالت مآب کی موجودگی میں کافروں سے جہاد کیا ہے۔

بُونطی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک نے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کی: ”مولا! اس دور میں ایک قوم پیدا ہو چکی ہے جنہیں
صوفیہ کہا جاتا ہے آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ ہمارے دشمن ہیں، جو بھی ان کی
طرف مائل ہوا وہ ان میں سے ہے اور وہ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ محسوس
ہو گا اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری محبت کا داعویٰ کریں گے اور ان
کی طرف مائل ہوں گے اور ان سے مشابہ اختیار کریں گے اور انہیں کے
لقب اپنائیں گے۔ ان کے اقوال کی تاویل کریں گے۔ آگاہ رہو جو بھی ان کی
طرف مائل ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں اور جس نے
ان کا انکار کیا اور ان کی تردید کی تو اس نے گویا رسول خدا علیہ وآلہ
وسلم کے سامنے کفار سے جہاد کیا۔“

السید مرتضی الرازی عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب قال کنت
مع الہادی علی بن محمد فی مسجد النبی فاتاہ جماعتہ من اصحابہ منہم
ابوهاشم الجعفری و کان رجلا بلیغا و کانت له منزلة عظیمة عنده ثم
دخل جماعتہ من الصوفیۃ و جلسوا فی جانب مستدبرا واخذوا بالتهلیل
فقال لا تلتفتوا الی هؤلاء الخداعین فانہم حلفاء الشیاطین و مخربو

اس صوفی نے کہا: ”جب تو ”وہ“ ہے تو پھر کے تلاش کر رہا ہے؟“
یہ لفظ سری سقطی نے سے تو نفرہ متاثرہ باند کیا اور بے ہوش ہو گئے
اور حقیقت یہ ہے کہ ہر صوفی اپنی ذات کی نفی کر کے خدا سے اتصال کا
خواہش مند ہوتا ہے اور وہ شرک ہستی کو دور کر کے منصور کی طرح انا الحق کا
نفرہ لگانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنے پیر و کاروں کو صوفیہ
کے ساتھ نہست و برخاست سے منع کیا ہے تاکہ وہ ان کے دام تزویر میں نہ
چھنس جائیں۔

چند روایات

عن البزنطی و اسماعیل بن بزیع عن الرضا قال من ذکر عنده الصوفیة
ولم ينكرواهم بلسانه وقلبه فليس منا ومن انكرهم فكانما جاهد الكفار بين
يدى رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم.

وعن البزنطی انه قال: قال رجل من اصحابنا للصادق جعفر بن محمد قد
ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟

قال انهم اعدائنا فمن مال اليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون اقوام
يدعون حبنا ويميلون اليهم ويتشبهون بهم ويلقبون بلقبهم ويأولون
اقوالهم الا فمن مال اليهم فليس منا وانا منه براء ومن انكرهم ورد عليهم
كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم.

”سفیہ المحدث ج ۲ ص ۷۵“

شیاطین کے حیف ہیں اور دین کی بیجادوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مادی فوائد کے حصول کے لئے زہد کے رنگ میں پیش کرتے ہیں اور یہ حیوان صفت افراد کو شکار کرنے کے لئے شب زندہ داری کرتے ہیں اور یہ لوگ خر صفت لوگوں پر پالان رکھنے کے لئے قادر کشی کرتے ہیں تاکہ انہیں لگام دے کر اچھی طرح سے سوار ہو سکیں۔ ان کا ذکر بھی لوگوں کو فریب دینے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ مکار اپنا کاسہ پر کرنے کے لئے کم خوارک کھاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ لوگوں سے بظاہر دوستی اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں کنوئیں میں دھکیل سکیں، ان کا ورد رقص اور تالیاں جانا ہے اور ان کا ذکر مر لگانا اور غنا ہے، ان کی پیروی احمد کرتے ہیں اور نادان ہی ان کے معتقد ہوتے ہیں۔ جو کوئی ان میں سے کسی زندہ یا مردہ کی زیارت کو جائے تو گویا وہ شیطان کی زیارت کے لئے گیا اور جو کوئی ان کی کسی طرح سے مدد کرے تو گویا اس نے بیزید، معاویہ اور ابوسفیان کی مدد کی۔

آپ کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کی: ”مولا! اگرچہ وہ آپ کے حقوق کا معرفت ہی ہو؟“

امام علی نقی علیہ السلام نے ناراض ہو کر اسکی طرف دیکھا اور فرمایا: ”اس بات کو جانے دو، بھلاکی کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حقوق کا اعتراف کرنے والا ہماری مخالفت کرے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ صوفیہ ایک پست ترین گروہ ہے اور تمام صوفیہ ہمارے مخالف ہیں اور انکا طریقہ ہمارے طریقے سے جدا ہے، یہ لوگ اس امت کے نظرانی اور جو سی ہیں۔ یہ لوگ خدا کے نور کو محظانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔“

قواعد الدین یتزرہدون لراحة الاجسام ویتهجدون لتصید الانعام
یتتجوعون عمرًا حتی یلذخوا للایکاف حمرا لا یهملون الا لغور الناس
ولا یقللون العذاء الالملأ العاس واحتلalon قلب الدفنas یتكلمون
الناس بامالاتهم فی الحب ویطرحونهم بادالیلهم فی الجب، او رادهم
الرقص والتصدیة واذکارهم الترنم والتغفیة فلا یتبعهم الا السفهاء ولا
یعتقد بهم الا الحمقاء فمن ذهب الى زیارة احد منهم حیا ومتا فکانما
ذهب الى زیارة الشیطان وعبدة الاوثان ومن اعان احدا منهم فکانما اعان
یزید و معاویة و ابا سفیان فقال له رجل من اصحابه وان كان معترفا
بحقوکم قال فنظر اليه شبه المغضب وقال دع ذاعنك من اعترف
بحقوکنا لم یذهب في عقوتنا اما تدری انهم اخس طوائف الصوفية
والصوفية كلهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقنا وان هم الا
نصارى و مجوس هذه الامة اولئک الذين یجہدون في اطفاء نور الله
والله یعم نوره ولو کره الكافرون.

”سفیہ ج ۲ ص ۵۸“

سید مر تقی رازی محمد بن حسین بن اہل الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ یتھما ہوا تھا۔ اس وقت آپ کے چند اور ساتھی بھی مسجد میں وارد ہوئے جن میں ابوہاشم جعفری بھی تھے۔ ابوہاشم جعفری بلیغ انسان تھے اور امام علیہ السلام کے زندگیک ان کا ا... د مقام تھا۔ پھر صوفیہ کا ایک گروہ بھی مسجد میں وارد ہوا اور مسجد کے میں انہوں نے اپنا حلقة قائم کر کے لا اله الا الله کا ورد شروع کیا۔

امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا: ”ان مکاروں کی طرف التفات نہ کرو یہ لوگ

احترام ہونگے، ان کے حاکم سنگر ہوں گے اور ان کے علماء ظالموں سے ساز باز رکھتے ہوئے، ان کے دولتند مضرور تمندوں کی خوراک چوری کرنے والے ہوئے اور ان کے چھوٹے بزرگوں پر مقدم ہونگے، ان کی نظر میں جاہل، علامہ تصور ہونگے اور ہر شعبدہ باز ان کی نظر میں فقیر ہو گا۔ ان میں اہل خلوص اور اہل شک کا امتیاز نہیں ہو گا اور ان میں بھیڑ اور بھیریے کی کوئی تیزی نہ ہو گی۔

ان کے عالم زمین پر بنے والوں میں سے بدترین لوگ ہوں گے کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف راغب ہوں گے۔

خدا کی قسم یہ لوگ کینہ وعداوت رکھنے والے ہوئے اور ہمارے دشمنوں سے دوستی کرنے کا بہت زیادہ انتہام کریں گے اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کو گراہ کریں گے اور اگر انہیں کوئی عمدہ و منصب حاصل ہو جائے تو وہ رشتہ سے سیرہ نہ ہوئے اور جب ان کے پاس کچھ نہ ہو گا تو ریا کاری کے لئے عبادت کریں گے۔

گواہ رہو یہ مؤمنوں کے لئے رہبر ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو بے دینی کی دعوت دینے والے ہیں۔

مؤمنین کو چاہئے کہ ان سے پرہیز کریں اور اپنے دین و ایمان کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھیں۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”ابوہاشم! میں نے جو کچھ بیان کیا ہے میرے آبائے طاہرین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور یہ ہمارا راز ہے۔ ناہل لوگوں سے اسے پوشیدہ رکھو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

عن السيد المرتضى الرازى بسنده عن الامام الحسن العسكري انه قال: لابى هاشم الجعفرى سیأتی زمان على الناس وجوهم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة ، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة ، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر ، امراضهم جائزون وعلمائهم في ابواب الظلمة ، سائرون أغيازوهم يسرقون زاد الفقراء واصاغرهم ، يتقدمون على الكبراء ، كل جاہل عندهم خبیر وكل محيل عندهم فقير ، ولا يميزون بين المخلص والممرتاب ، ولا يعرفون الصنان من الذئاب علماؤهم شرار خلق الله على وجه الارض لأنهم يميلون الى الفلسفة والتصوف وایم الله انهم من اهل العداون والتجرف يبالغون في حب مخالفينا ويصلون شيعتنا وموالينا وان نالوا لا يشعرون عن الرضا وان خذلوا عبدوا الله على الرياح الا انهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة الى نحلۃ الملحدین. فمن ادرکهم فليحذرهم ولیصن دینه وایمانه ثم قال يا اباہاشم هذا ما حدثني ابی عن ابیه عن جعفر بن محمد عليهما السلام وهو من اسرارنا فاكتحمه الا عن اهله.

”سفیہ المحدث ج ۲ ص ۵۷“

سید مرتضی رازی نے اپنے اسناد سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابوہاشم جعفری سے فرمایا: ”لوگوں پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ ان کے چہرے خوشی سے چمکتے دلکھتے ہوئے اور ان کے دل تیرہ و تاریک ہوئے۔ ان کی نظر میں سنت بدعت ہوگی اور بدعت ان کے ہاں سنت قرار پائے گی، ان میں مؤمن کو ذلیل و خوار سمجھا جائے گا اور ان میں فاسق قابل

مدارک و مآخذ

(پند تاریخ جلد اول تا پنجم)

اس کتاب کی تدوین میں ان کتب سے استفادہ کیا گیا ہے

كتب احادیث

متوفی ۱۸۷	ابو جعفر شیخ صدوق	الخصال	۱۲.
متوفی ۱۸۷	ابو جعفر شیخ صدوق	عل الشرائع	۱۳.
متوفی ۱۸۷	عیون اخبار الرضا	ابو جعفر شیخ صدوق	۱۴.
متوفی ۱۸۷	معانی الاخبار	ابو جعفر شیخ صدوق	۱۵.
متوفی ۱۸۷	مناقب شر آشوب	شر آشوب باز ندرانی	۱۶.
متوفی ۱۸۷	میرزا حبیب اللہ خوئی	منہاج البراعم	۱۷.
متوفی ۱۸۷	ورام عن اہل فراس	مجموعہ ورام	۱۸.
متوفی ۱۸۷	ابو محمد حسن بن علی	تحف العقول	۱۹.
متوفی ۱۸۷	شیخ بیاء الدین محمد بن حسین عاملی	اربعین	۲۰.
متوفی ۱۸۷	شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی	امالی	۲۱.
متوفی ۱۸۷	حاج شیخ عباس قمی	سفیہة المختار	۲۲.
متوفی ۱۸۷	ابو منصور احمد بن علی بن اہل طالب	الاحتیاج	۲۳.
متوفی ۱۸۷	ابو جعفر محمد بن فضال شید	روضۃ الواعظین	۲۴.
متوفی ۱۸۷	شید ثانی زین الدین	کشف الربیب	۲۵.
متوفی ۱۸۷	شیخ محمد باقر بر جندی	کبریت احر	۲۶.
متوفی ۱۸۷	علماء مجلسی	حیات القلوب	۲۷.
هم عصر	شیخ ذیع اللہ محلاتی	قضاؤتی امیر المؤمنین	۲۸.
هم عصر	ملا فیض کاشانی	ترجمہ و شرح فتح البلاغہ	۲۹.
قرن اول	علامہ مجلسی	محمد بن محمد نواسہ شید ثانی	۳۰.
	محدث الانوار	ابی محمد حسن بن اہل الحسن دیلمی	۳۱.

۱. اصول کافی شیخ کلینی
۲. فروع کافی شیخ کلینی
۳. روضہ کافی شیخ الاسلام شیخ کلینی
۴. وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی
۵. اثبات الہدایہ شیخ حر عاملی
۶. مذکور الوسائل حاج میرزا حسین نوری
۷. کمک طیبہ حاج میرزا حسین نوری
۸. وافی شرح کافی ملا محسن فیض کاشانی
۹. محدث الانوار علامہ مجلسی
۱۰. انوار نعمانیہ سید نعمت اللہ جزاڑی
۱۱. امالی صدوق ابو جعفر شیخ صدوق

كتب أخلاق

- | | | |
|--|--|-----------------|
| ٣٥. نسخ التواريخ | ميرزا محمد تقى پرسان الملك | متوفى ١٢٩٤ |
| ٣٦. كامل التواريخ | عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم | متوفى ١٣٥٥ |
| ٣٧. قصص العلماء | ميرزا محمد بن سليمان تيكابنى | متوفى ١٣٠٨ |
| ٣٨. حجۃ النقی | محمد جلیل شیخ عباس قمی | متوفى ١٣٥٩ |
| ٣٩. منتی الآمال | محمد جلیل شیخ عباس قمی | متوفى ١٣٥٩ |
| ٤٠. بیت الاحزان | محمد جلیل شیخ عباس قمی | متوفى ١٣٥٩ |
| ٤١. نفس المہوم | محمد جلیل شیخ عباس قمی | متوفى ١٣٥٩ |
| ٤٢. مقتل خوارزمی اہل المؤید موفق بن احمد کی | | متوفى ١٣٢٨ |
| ٤٣. وقائع الایام | ملا علی بن عبدالعظیم خیلاني | متوفى ١٣٦٢ |
| ٤٤. ارشاد مفید | شیخ مجید محمد بن محمد بن فعمان | متوفى ١٣٢٣ |
| ٤٥. تذکرة الاولیاء | شیخ فرید الدین عطار | متوفى ١٣٢٨ |
| ٤٦. ریاضین الشریعه | شیخ ذیقع اللہ محلاتی | هم عصر |
| ٤٧. شجرہ طویلی | شیخ محمد مهدی حائری | هم عصر |
| ٤٨. تاریخ تصوف | ڈاکٹر قاسم غنی | هم عصر |
| ٤٩. ترجمہ تاریخ اعتم کوئی خواجہ احمد بن محمد | | اوائل قرن چہارم |
| ٥٠. حبیب اسریر | غیاث الدین خواند امیر شیعی | |
| ٥١. بیمارستان | شیخ محمد حسین آیتی بیر جندی | |
| ٥٢. منتخب التواریخ | حاج ملا ہاشم خراسانی | |
| ٥٣. | | |

- | | | |
|-------------------|------------------------|------------|
| ٣٢. جامع السعادات | مولی محمد مهدی زراقی | متوفی ١٢٠٩ |
| ٣٣. اخلاق محنتی | ملا حسین کاشنی | متوفی ١٩١٥ |
| ٣٤. عطاء اللہ روی | هم عصر | |
| ٣٥. تعلیمات قرآن | حام الدین قال اسیری | |
| ٣٦. مکارم الاخلاق | رضی الدین ابو نصر طبری | |

كتب تاريخ

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------|
| ٣٧. مرrog الذهب | حسین بن علی مسعودی | متوفی ١٣٣٦ |
| ٣٨. اثبات الوصیة | حسین بن علی مسعودی | متوفی ١٣٣٦ |
| ٣٩. تاریخ طبری | ابو جعفر محمد بن جریر طبری | متوفی ١٣١٥ |
| ٤٠. نور العین | سید نعمت اللہ جزائری | متوفی ١١١٢ |
| ٤١. الغری | فخر الدین محمد بن نقیب | متوفی ١٣٠٩ |
| ٤٢. شرح ابن اہل الحدید | عبدالحیم بن محمد بن محمد | متوفی ١٢٥٥ |
| ٤٣. روضۃ الصفا | میر خواند محمد بن خاوند شاہ ابن محمود | متوفی ٩٠٣ |
| ٤٤. مجالس المؤمنین | قاضی تورالله شوستری شمید ثالث | متوفی ١٠١٩ |

كتب تفسير

٦٣. تفسير صافي ملا محمد فیض کاشانی متوفی ١٠٩٤
٦٤. تفسیر البرهان سید هاشم بحرانی متوفی ١٢٥٦
٦٥. تفسیر مجع البيان فضل بن حسن بن فضل طرسی متوفی ٥٣٥ از اعلام قرآن ششم
٦٦. تفسیر ابوالفتوح رازی خلاصه الملحظ ملا فتح اللہ کاشانی

كتب رجال و تراجم

٦٧. الکنی والالقاب محدث تی متوفی ١٣٥٩
٦٨. تحفۃ الاحباب محدث تی متوفی ١٣٥٩
٦٩. زندگانی و شخصیت شیخ مرتضی انصاری - مؤلف مرتضی انصاری ہم عصر
٧٠. روضات الجبات میرزا محمد باقر خوانساری
٧١. نامہ دانشوران مجع آوری : (۱) حاج میرزا ابوالفضل ساوجی (۲) میرزا حسین ساوجی (۳) عبدالوهاب قزوینی (۴) شیخ العلماء

كتب کلام

٧٣. کفاية المؤحدین حاج سید اسماعیل بن احمد عقیل متوفی ١٣١٦
٧٤. الغدیر شیخ عبدالحسین احمد امین متوفی ١٣٢٥

كتاب حکایات و متفرقہ

٧٦. کشکول شیخ یحیاء الدین محمد بن حسین عاطی متوفی ١٢٣٥
٧٧. خزانہ نراثی کاشانی ملا حاج احمد نراثی کاشانی متوفی ١٢٣٣
٧٨. راغب اصفهانی محاضرات متوفی ١٢٥٢
٧٩. ابوجردن علی بن عبد اللہ جموی ثرات الاوراق متوفی ١٢٣٥
٨٠. فخر الدین علی صفتی لطائف الطوائف متوفی ١٢٣٩
٨١. محمد عوینی جامع الحکایات متوفی ١٢٥٥
٨٢. عبد الرحمن بن علی جوزی الاذکیاء بوقرقج متوفی ١٢٥٩
٨٣. ابو محمد شاعر مشهور به نظامی چمار مقاله عروضی متوفی ١٢٨٢
٨٤. حاج ملا اسماعیل مجمع التورین متوفی ١٢١٢
٨٥. سید نعمت اللہ جزاری زهر الریح متوفی ١١١٢
٨٦. حاج شیخ علی اکبر نہادنی خزینۃ الجواہر متوفی ١٢٦٩
٨٧. شیخ سلیمان المرفوع خواجه کلاں بیانیح المودة متوفی ١٢٩٣
٨٨. ملا محمد فیض کاشانی المحجة البيضاء متوفی ١٠٩٠
٨٩. ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شرستانی الملل والخل متوفی ١٢٣٨
٩٠. دار السلام میرزا حسین نوری متوفی ١٢٢٠
٩١. فرج الہموم علی بن طاؤس حلی متوفی ١٢٦٣
٩٢. عقد الفرید شاپ الدین احمد بن عبد ربہ اندازی متوفی ١٢٢٥

لکھنؤ اشعار اور دیوان

متومنی ۹۱	۱۰۸. دیوان حافظ	حافظ محمد شمس الدین شیرازی
متومنی ۷۲	۱۰۹. دیوان شمس تبریز	مولانا جلال الدین رومی
متومنی ۳۲	۱۱۰. دیوان حاجی	میرزا حبیب اللہ خراسانی
متومنی ۵۸۲	۱۱۱. سُجُّوی	نظای گنجوی
متومنی ۷۲	۱۱۲. مثنوی مولوی	مولانا جلال الدین رومی
متومنی ۳۲۰	۱۱۳. قواد کرمانی	آقا فتح اللہ قدسی مخالف بقواد
متومنی ۵۳۵	۱۱۴. سنائی غزنوی	مجدود بن آدم حکیم غزنوی
متومنی ۳۸	۱۱۵. اوحدی مراغہ ای	صاحب کتاب جام جم
هم عصر	۱۱۶. دیوان پروین اعتصامی	بانوپروین ملقب به مارشال پیر غبی
	۱۱۷. الہی قشہ ای	از شعراءِ ہم عصر
	۱۱۸. دیوان شریار	از شعراءِ ہم عصر
	۱۱۹. دیوان ایرج میرزا	
	۱۲۰. صائب تبریزی	

۹۳. منتخبات ادیٰ	اسا عمل امیر خیزی
۹۳. المسترف	محمد بن احمد خطیب البشی
۹۵. لفظۃ الیمن	احمد بن محمد النصاری یمنی
۹۶. نواور الادباء	ابراهیم زیدان
۹۷. الکلام بیگر الکلام	سید احمد زنجانی
۹۸. اعلام الناس	الہیدی
۹۹. سکول برانی	شیخ یوسف برانی
۱۰۰. نزہۃ الجالس	شیخ عبدالرحمٰن صفوری شافعی
۱۰۱. تجربۃ الادب	
۱۰۲. نزہۃ الابصار	
۱۰۳. مضرات نوشابہ ہای الکلی	

لکھنؤ لغت و فرهنگ

۱۰۴. مجح المحررین	فخر الدین بن محمد علی بن احمد طرتع متومنی ۱۰۸۵
۱۰۵. اقرب الموارد	سعید بن عبد اللہ بن میخائیل تایف ۱۸۹۰
۱۰۶. اختر کبیر	مصطفیٰ بن شمس الدین قرة حصاری
۱۰۷. المنجد	قس لویس شنونیوسی

حسن علی بکری پو کی مطبوعہ دیدہ زیب

علمی کتابیں

جلد اول	شرح قرآن	باترجمہ	سورہ یس
۵ جلدیں	پندرہ تاریخ	باترجمہ	سورہ یس سات میں
۲ جلدیں	تقبیلیم	باترجمہ	پنج سورہ
۲ جلدیں	گناہان کبیرہ	باترجمہ	دعائے کامل
	کیفر گناہان کبیرہ	باترجمہ	حدیث کسانہ
	معراج	باترجمہ	دعائے جوشن کبیر
	ہدیۃ الشیعہ	باترجمہ	دعائے ندبہ
	درس اخلاق	باترجمہ	دعائے نور
	گلدستہ مناجات	باترجمہ	دعائے مشلول
	جواب حاضر ہے	باترجمہ	دعائے عرفہ
زیارات چہارہ معصومین		باترجمہ	دعائے سمات اتوسل
زیارت آل یس		باترجمہ	اعمال ماہ رمضان
گھر ایک جنت		پاکٹ سائز	تعقیبات نماز
تحفہ المؤمنین	مشائی خواتین	پاکٹ سائز	تحفہ المؤمنین

بچوں کیلئے با تصویر کہانیاں بھی دستیاب ہیں

حسن علی بکری پو
بالقابل برالمام بالہ، کھداور، کراچی۔ فون: ۰۲۲۳۴۰۵۵
E-mail: hassanallbookdepot@yahoo.com

